

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BUKU IQRO'**  
**CARA CEPAT**  
**BELAJAR MEMBACA**  
**AL-QUR'AN**


اقرأ



Oleh : KH. AS'AD HUMAM  
Balai Litbang LPTQ Nasional  
Team Tadarus "AMM" Yogyakarta

HATI-HATI BUKU BAJAKAN ! BISA TIDAK BAROKAH







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BUKU IQRO'**  
CARA CEPAT  
BELAJAR MEMBACA  
AL-QUR'AN

اِقْرَأْ  
1



Oleh : KH. AS'AD HUMAM  
Balai Litbang LPTQ Nasional  
Team Tadarus "AMM" Yogyakarta



IMCANA



## KATA PENGANTAR \*

Alhamdulillah, berkat rahmat dan inayah-Nya, tersusunlah BUKU IQRO' CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QUR'AN yang terdiri dari enam (6) jilid, disusun secara praktis dan sistematis, sehingga memudahkan bagi setiap orang yang belajar dan mengajarkan membaca Al-Qur'an dalam waktu yang relatif singkat.

Sejak tahun lima puluhan, Penyusun telah berkecimpung dalam pengajaran Al-Qur'an dengan menggunakan berbagai metode yang dalam kenyataannya ternyata belum sempurna. Atas dasar pengalaman yang cukup lama dan permintaan serta desakan dari berbagai pihak maka berkat inayah Allah, kerja keras dan bantuan berbagai pihak tersusunlah Buku IQRO'.

Secara khusus, Penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas saran, masukan dan kritik, kepada Ustadz H. Dachlan Salim Zarkasyi (Penyusun Buku Qiro'ati), Bapak H. Andi Lolotonang, SH (Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji) Bapak Drs. H. Djunaidi (Kabid Penais Kanwil Depag DIY), Adinda H. Djumanuddin Humam, Drs. HM. Budiyanto, Drs. H. Yusa' Fathuddin, Ustadz Chumaidi Ilyas, H. Widodo, SH., Ananda Erweesbe Maimanati, SH. dan semua pihak yang tak dapat Penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya, Penyusun tetap mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi amal dan perjuangan kita. Amin.

Yogyakarta, 3 Juli 1990

Penyusun,

(H. As'ad Humam)

**Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun. Hak Cipta dilindungi Undang-undang Hak Cipta No. 002346/90**





Balai Penelitian & Pengembangan  
Sistem Pengajaran Baca Tulis Al-Qur'an  
**LPTQ NASIONAL DI YOGYAKARTA**

Team Tadarus "AMM" Kotagede Yogyakarta Telp. 0274 . 371859 Fax. 378492

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat-Nya, bahwa Gerakan Da'wah Al-Qur'an yang kita mulai sejak tahun 1984 telah menunjukkan hasil yang amat menggembirakan. Ribuan bahkan jutaan ummat Islam telah dapat diselamatkan dari buta huruf Al-Qur'an. Hal ini terutama karena adanya metode praktis belajar membaca Al-Qur'an (IQRO') yang dilengkapi dengan menejemen TKA-TPA yang sistimatis.

Untuk itu, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bersama-sama mencurahkan waktu, tenaga, pikiran dan dana bagi suksesnya Gerakan Da'wah Al-Qur'an ini, semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua.

Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan pula bahwa pada awal milenium ketiga ini, alhamdulillah kami telah berhasil mengadakan **refisi dan penyempurnaan** terhadap BUKU IQRO'\*. Mudah-mudahan akan semakin memberikan semangat kepada kita semua di dalam mensukseskan Gerakan Da'wah Al-Qur'an. Disamping itu, mudah-mudahan dapat meminimalisasi beredarnya buku-buku IQRO' bajakan yang sangat merugikan semua pihak.

Akhirnya; kepada Allah kita bertawakkal dan kepada-Nya kita mohon pertolongan, nashrun minallah wa fathun qorib.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


\* Ciri-ciri IQRO' Edisi Refisi tahun 2000 :

- *Beberapa bagian bentuk asesoris/tulisan pada sampul depan, seperti timbul.*
- *Khot dan bingkai semua halaman, baru.*
- *Beberapa kalimat/lafadz, diganti/dibetulkan (terutama pada jilid 5 dan 6)*

Yogyakarta, 1 Januari 2000

Balai Litbang LPTQ Nasional

Team Tadarus "AMM" Yogyakarta,



KH. M. Hidayat, SH.

Ketua



# PETUNJUK MENGAJAR JILID 1

## 1. Sistem

- a. CBSA (Cara Belajar Santri Aktif) guru sebagai penyimak saja, jangan sampai menuntun, kecuali hanya memberikan contoh pokok pelajaran.
- b. Privat. Penyimakan secara seorang demi seorang.

### *Catatan:*

*Bila klasikal, santri dikelompokkan berdasarkan persamaan kemampuan/jilid. Guru menerangkan pokok-pokok pelajaran secara klasikal dengan menggunakan peraga, dan secara acak santri dimohon membaca bahan latihan.*

- c. Asistensi. Santri yang lebih tinggi jilidnya dapat membantu menyimak santri lain.
2. Mengenai judul-judul, guru langsung memberi contoh bacaannya, jadi tidak perlu banyak komentar.
  3. Sekali huruf dibaca betul, tidak boleh/jangan diulang lagi.
  4. Bila santri keliru panjang-panjang dalam membaca huruf, maka guru harus dengan tegas memperingatkan (sebab yang betul dengan pendek-pendek) dan membacanya agar diputus-putus, bila perlu ditekan.
  5. Bila santri keliru membaca huruf, cukup betulkan huruf-huruf yang keliru saja, dengan cara:
    - Isyarah, umpamanya dengan kata-kata "eee...awas...stop...dsb"
    - Bila dengan isyarah masih tetap keliru, berilah titian ingatan. Umpamanya santri lupa baca huruf ( ز ) ustadz cukup mengingatkan titiknya yaitu "bila tidak ada titiknya dibaca RO ( ر )" dst. Bila masih tetap lupa, barulah ditunjukkan bacaan yang sebenarnya.
  6. Pelajaran satu ini berisi pengenalan huruf berfathah, maka sebelum dikuasai benar, jangan naik ke jilid berikutnya. Sedangkan bila kemampuan maksimal tetap belum fasikh, maka sementara boleh:
    - ثقف lebih diarahkan ke bunyi SIA daripada keliru س
    - ظ lebih diarahkan ke bunyi DHO (kendor) daripada keliru ظ
    - ذ (dibaca dengan bibir agak maju) lebih diarahkan ke bunyi ذ
    - خ lebih diarahkan ke bunyi KO daripada keliru خJadi bisa naik ke pelajaran dua dengan "her" pada huruf-huruf tertentu.
  7. Bagi santri yang betul-betul menguasai pelajaran dan sekiranya mampu berpacu dalam menyelesaikan belajarnya maka membacanya boleh diloncat-loncatkan, tidak harus utuh sehalaman.
  8. Untuk EBTA, sebaiknya ditentukan guru pengujinya.
- Demikian, semoga sukses. Amin

Yogyakarta, 3 Juli 1990

Revisi

  
(H. As ad Humam)

**Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun. Hak Cipta dilindungi Undang-undang Hak Cipta No. 002346/90**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bacaan langsung A - Ba dst. Tidak perlu diurai/dieja.

Bacalah dengan suara pendek.

أ = آ    آ    آ    ب    ب

ب    ب    آ    آ    ب    ب

ب    آ    آ    آ    ب    ب

ب    ب    آ    آ    ب    ب

ب    آ    آ    ب    ب    آ

آ    آ    آ    ب    ب    ب

آ    ب    ب    آ    ب    ب



BACAAN LANGSUNG A - BA-TA Dst.  
DENGAN SUARA PENDEK-PENDEK

بَ ثَ

أَ تَ بَ ثَ

ثَ أَ بَ ثَ

بَ ثَ أَ

ثَ أَ تَ

أَ تَ بَ ثَ

أَ بَ ثَ



بَ ثَ ثَ

ثَ أَ بَ ثَ بَ ثَ

بَ ثَ ثَ ثَ بَ أَ ثَ

أَ ثَ بَ ثَ بَ ثَ

ثَ بَ ثَ أَ ثَ ثَ

ثَ ثَ أَ بَ ثَ ثَ

ثَ بَ ثَ ثَ بَ ثَ ثَ

أَبَ ثَ ثَ أَبَ ثَ ثَ



## ج

أ	ج	ج	أ	ج
---	---	---	---	---

أ	ث	ج	ث	ب	ج
---	---	---	---	---	---

ب	ج	ث	ث	أ	ج
---	---	---	---	---	---

ج	أ	ب	ج	أ	ث
---	---	---	---	---	---

ث	أ	ج	ث	ج	ج
---	---	---	---	---	---

ج	أ	ج	ج	ث	ث
---	---	---	---	---	---

أ ب ث ج



ج ح

ج ا ح ج ح ث

ح ج ث ج ح ث

ج ح ث ج ح ب

ج ا ح ج ح ح

ث ج ب ح ح ا ح

ا ج ج ا ح ح ح

ا ب ث ج ح ح



ج ح خ

ح أ خ ج أ خ

ث أ خ ث ج

ب أ خ ث ح ث

ج أ ح ب ح ث

ث أ خ ج ح ث

أ خ خ ج ح خ

أ ب ث ث ج ح خ



رِخَ دَ دَ حَ دَ دَ خَ

رِخَ دَ دَ شَ جَ حَ دَ

رِخَ دَ دَ شَ حَ جَ دَ

رِخَ دَ دَ جَ حَ خَ

رِخَ دَ دَ جَ دَ جَ

رِخَ دَ دَ خَ دَ دَ

أَبَثَثَ جَحَخَدَ



دَا  
دَا

دَا دَا  
دَا دَا  
دَا دَا

دَا دَا  
دَا دَا  
دَا دَا

دَا دَا  
دَا دَا  
دَا دَا

دَا دَا  
دَا دَا  
دَا دَا

دَا دَا  
دَا دَا  
دَا دَا

دَا دَا  
دَا دَا  
دَا دَا

دَا دَا دَا دَا  
دَا دَا دَا دَا  
دَا دَا دَا دَا



ر

دَ دَ رَ رَ خَ خَ دَ دَ رَ

رَ رَ حَ حَ دَ دَ جَ جَ دَ دَ

رَ رَ حَ حَ شَ شَ دَ دَ رَ رَ

بَ بَ رَ رَ خَ خَ جَ جَ

حَ حَ دَ دَ رَ رَ بَ بَ شَ شَ

خَ خَ دَ دَ حَ حَ جَ جَ رَ رَ

أَبَ ثَ ثَ جَ حَ خَ دَ دَ رَ



رَ رَ رَ

رَ أَ زَ دَ رَ رَ رَ

زَ دَ رَ زَ شَ دَ

زَ حَ دَ شَ رَ رَ

شَ رَ جَ شَ زَ دَ

بَ زَ رَ شَ حَ دَ

جَ أَ شَ زَ أَ زَ

أَبَثَّ شَجَّ حَخَّ دَذَّ رَزَّ



## س

زَا سَا زَرَسَا

سَا سَا سَا سَا سَا سَا

سَا سَا سَا سَا سَا سَا

سَا سَا سَا سَا سَا سَا

سَا سَا سَا سَا سَا سَا

سَا سَا سَا سَا سَا سَا

سَا سَا سَا سَا سَا سَا



## سَ شِشْ

سَ أَشْ سَ شَشْ زَتَ شْ

شْ ذَ ثْ دَ رَ سَ شْ تَ ذَ

زَ حَ ثْ خَ شْ بَ جَ رَ سَ

سَ شْ أَ رَ شْ ذَ حَ سَ دَ

ذَ خَ زَ أَسَ شْ شَ زَ رَ

خَ سَ دَ شْ زَ جَ أَبَ تَ

ثَ جَ حَ خَ دَ زَ سَ شْ



## ص

صَ أَشْ صَ شَزْ سَ رَ صَ

صَ شَذْ دَ سَ صَ شَ رَ تَ

سَ خَ صَ حَ صَ دَ ذَ رَ صَ

حَ ذَ رَ شَ بَ صَ سَ جَ زَ

صَ دَ خَ صَ جَ ذَ شَ رَ زَ

شَ خَ صَ أَبَ تَ ثَ جَ حَ

خَ دَ ذَ رَ زَ سَ شَ صَ



## صَ خُ

صَ اَخُ حَ خُ رَ اَصُ خُ

شُ اَخُ شُ خُ زُ خُ رِبَ

صَ حَ ثَ صَ دَ زُ دَشُ خُ

سَ حَ دَ رَ صَ دَ خُ تَ دَ

شُ خُ زُ خُ جَ دَ سَ اَشُ

صَ رَ خُ اَبَ ثَ جَ حَ خُ

دَ دَ رَ زَ سَ شُ صَ خُ



## ط

طَاخُ زَطَّ شَحَجَ طَا

تَصْرُضُ دَطَّ سَزَدَ طَا

دَخُصَّ سَرَطَا شَخُضَتْ

شَخَطَا طَاخَ دَبَّصُضُ

ذَرَطَا جَزَخُضَتْ أَشْ

سَخَطَا أَبَتْتَحَجَّخُ

دَذَرَ سَشَصُطَا



## طَ ظَ

ظَا طَا بَطَا ظَ طَ حَا ذَا

سَا ضَا ظَا دَا صَا ظَا طَا حَا ذَا

شَا أَظَا سَا رَا صَا زَا خَا طَا

شَا رَا ضَا زَا خَا ضَا ثَا ضَا ظَا

صَا دَا شَا جَا طَا ضَا شَا طَا ظَا

أَبَا تَا ثَا جَا حَا خَا دَا ذَا

رَا زَا سَا شَا صَا ضَا طَا ظَا



## ع

ظَا عَ تَع رَ بَع طَ

صَع زَ صَع ضَ دَح ظَ

بَاعَ شَ سَع ظَ شَطَعَ

جَ نَحَ ذَ ضَع شَ زَا ضَ

عَجَ ظَ دَطَضَ طَع طَ

أَبَاتَ شَجَحَ خَ دَ ذَ

رَزَسَ شَصَضَ طَطَعَ



## ع غ

غَ اَ ع دَ غَ ظَ عَ طَ غَ

شَ عَ ظَ جَ غَ ظَ سَ طَ عَ

حَ رَ ظَ شَ غَ ظَ صَ رَ عَ

زَ خَ ظَ ضَ عَ دَ شَ غَ ضَ

شَ رَ ظَ طَ عَ ظَ بَ غَ ضَ

أَبَ تَ ثَ جَ حَ خَ دَ رَ

سَ شَ ضَ طَ ظَ عَ غَ



## فَ

فَأَفْعُ فَاعِضُ فَعْفَصُ

فَاتَّحَ فَعَجَزَ فَحَفَظَ

طَاعَ دَ صَوَّفَعُ شَخَّضُ

صَوَّفَعُ ظَا نَخَفَ دَ شَخَّضُ

فَاَزَعَ شَخَّطَ ظَفَرَ

أَبَاتَ ثَجَّحَ خَدَّزَ

سَسَشَ صَخَّطَ عَفَفَ



## فَاقَ

قَبَضَ قَطَفَ فَرَاقَ

شَغَطَ فَاقَطَ سَعَفَ

حَدَخَ قَفَصَ عَقَدَ

ضَغَطَ شَفَعَ زَقَقَ

أَبَثَ ثَجَحَ خَدَدَ

رَزَزَ سَسَسَ صَضَضَ

طَطَطَ عَعَعَفَ فَاقَقَ



## كَ

كَخَقْ كَقَخْ كَقَقْ

خَحْ كَعَطَفْ شَكَّرْ

جَكَّتْ قَكْفْ ذَعَسْ

صَدَثْ غَفَفْ زَكَطْ

أَبَثْ ثَجَحْ خَدَذْ

رَزَسْ شَصْ صَخَطْ

عَغَفَفْ قَكْ

ك

قَالَ بَجَعَ لَخَلَطَ

ذَكَرَ رَغَلَ نَظَرَ قَفَصَ

حَالَ فَاذَغَسَ شَكَ لَ

ضَرَ رَعَزَتَ ظَكَ لَكَ لَ

أَبَثَثَ جَحَخَ دَذَ

رَزَسَ شَصَصَ

طَظَعَ غَفَقَكَ لَ



م

فَعَمَ خُ لَمَسَ جَمَع

فَارَضَ كَرَمَ خَلَطَ

صَمَدَ نَطَتَ ذَمَزَقَ

شَمَلَ فَكَّحَ عَمَمَ

أَبَثَّ جَحَّخَ دَدَ

رَزَسَ شَصَّ ضَطَطَ

عَفَقَ فَقَّ كَلَمَ

## نَ

نَظَفَ نَغَشَ طَاعَ نَ

صَمَخَ قَرَنَ خَلَقَ

زَمَنَ كَذَبَ جَنَدَ

كَانَسَ لَحَظَ مَنَنَ

أَبَثَ ثَجَحَ خَدَدَ

رَزَسَ شَصَ ظَطَ

عَفَفَ قَكَ مَنَ



وَ

وَزَرَ وَكَغَمَ دَوْمَ

فَاطَانَ قَوْمَ ظَجَعِ

كَوَنَ سَكَتَ خَوْصِ

شَوْكَ دَحْضِ وَنَوْ

أَبَاتَ جَحْخِ دَدِ

رَزَسَ شَصِ طَظِ

عَمَغَفَ قَكَ لَمَنَ وَ



## هـ

هَمْ شَجَهَدَ وَ م

فَاحَ طَهَرَ وَضَحَ

وَهَظَ كَمَنْ زَهَقَ

سَهَلَ دَغَصَ جَهَهَ

أَبَثَّ جَحَخَ دَدَ

رَزَسَ شَصَصَ طَظَ

عَفَقَ كَلَمَنَ وَ هَ



## يَا

ضُيَ رَ ضَاحِ يَ زِي نَ

سَ يَغَ وَ كَلْ هِيَ خَ

طَهَ ظَ شَيِّعَ وَقَ فَ

هِيَ مَ جَ ذَ ثَ يَ دِي

أَبَاتَ ثَ جَ حَ خَ دَ رَ زَ

سَ شَ صَ ضَ طَ ظَ عَ غَ

فَ قَ كَ لَ مَ نَ وَ هِيَ

اَ = آ = ع

رَ = رِ = مَ = مِ

بَارَ بَا رَرَ قَرَّ عَا

أَمَّ مَجَّ نَزَّ سَاءَ لَ

رَنَزَقَ مَدَحَ نَفَعَ مَمَّ

لَاءَ كَأَ مَرَّشَاءَ مَدَّ مَ

سَيَّ جَكَ كَجَيَّ

قَاتَ لَمَرَ سَنَ



شَبَابَتْ جَحَخْ دَذَر

زَسَشْ أَصْظْ طَظَع

فَعْفَقَ كَلَمَ نَوَه

حَهَلْ بَابِيْنَ ءَأَر

بَاعَثَ جَحَخْ دَذَر

زَسَشْ أَصْضْ طَظَع

فَعْفَقَ كَلَمَ نَوَه

هَيَاتْ أَكَلْ مَرَنْ وَ

# PENTING

BEDAKAN DENGAN JELAS ANTARA

ثَ - سَ

عَ - اَ

ثَ - شَ

هَ - حَ

سَ - شَ

رَ - نَ

سَ - حَ

رَ - نَ

ثَ - طَ

عَ - حَ

ذَ - ظَ

وَقَ - اَقَ

ظَ - خَ

وَقَ - اَقَ



EBTA

KHUSUS JILID 1 INI  
JIKA BELUM MENGUASAI  
ULANG-ULANGILAH!

أَب ت ث ج ح خ د ذ ر ز

س ش ص ض ط ظ ع غ

ف ق ك ل م ن و ه ء ي

ي ء ه و ن م ل ك ق ف

غ ع ظ ط ض ص ش س

ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب أ

- BILA SUDAH LANCAR DAN BENAR  
BOLEH DINAIKKAN

# INDEKS - HURUF

Alif	أ	ZA	ز (Zai)	QA	ق (Qaf)
BA	ب (Ba')	SA	س (Sin)	KA	ك (Kaf)
TA	ت (Ta')	SYA	ش (Syin)	LA	ل (Lam)
ŠA	ث (Sa')	ŠA	ص (Sad)	MA	م (Mim)
JA	ج (Jim)	DA	ض (Dad)	NA	ن (Nun)
HA	ح (Ha)	TA	ط (Ta')	WA	و (Wau)
KHA	خ (Kha)	ZA	ظ (Za')	HA	ه (Ha)
DA	د (Dal)	'A	ع ('Ain)	A	أ = ء (Hamzah)
DA	ذ (Dal)	GA	غ (Gain)	YA	ي (Ya)
RA	ر (Ra')	FA	ف (Fa')		

Ket. (Ba') (Ta') dst. adalah nama-nama huruf

Halaman ini boleh digunakan, sekedar untuk membantu titian ingatan bacaan-bacaan yang khilaf.

Bagi santri tidak ada halangan/boleh belajar mengenal sendiri nama-nama huruf hijaiyah, namun untuk huruf-huruf yang sulit, seperti ض / ظ / غ harus ditanyakan pada yang ahli.

۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**BUKU IQRO'**  
**CARA CEPAT**  
**BELAJAR MEMBACA**  
**AL-QUR'AN**

اِقْرَأْ

2



Oleh : KH. AS'AD HUMAM  
Balai Litbang LPTQ Nasional  
Team Tadarus "AMM" Yogyakarta

EDISI REVISI TAHUN 2000




## PETUNJUK MENGAJAR JILID 2

1. Petunjuk mengajar jilid 1 nomer 1, 2, 3, 5, 7, dan 8 masih berlaku untuk jilid 2 ini.
2. Bila pada pelajaran yang lalu ada "her" pada huruf-huruf tertentu, maka dalam mempelajari jilid 2 ini, bisa sambil menyempurnakan bacaan huruf yang "her" tersebut.
3. Mengenai judul-judul huruf yang dirangkai, guru tidak perlu menerangkan. Umpama: ini Ba di muka, ini Ba di tengah, ini Ba di akhir. Sebab biasanya santri faham bisa membacanya. Jadi guru hanya menyimak saja.
4. Mulai halaman 16 bacaan mad/panjang, sementara, panjangnya boleh lebih 2 harokat. Yang penting harus jelas beda mana yang pendek dan mana yang panjang.
5. Membacanya tetap dengan putus-putus saja yaitu walaupun hurufnya bersambung.
6. Mulai halaman 16, bila dengan bacaan putus-putus santri cenderung keliru baca panjang, yang semestinya satu harokat, maka membacanya agar dirangkai saja dengan huruf berikutnya. Bila santri keliru baca panjang (yang mestinya pendek) guru cukup menegur "*mengapa dibaca panjang*" ? Dan bila santri keliru baca pendek (yang seharusnya dibaca panjang) guru cukup menegur pula "*mengapa dibaca pendek*" ?

Demikian, semoga sukses. Amin

Yogyakarta, 3 Juli 1990

Penyusun,



(H. As'ad Humam)

**Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun. Hak Cipta dilindungi Undang-undang Hak Cipta No. 002346/90**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَاتَ = بَتَّ      بَادَ = بَدَّ

تَارَ = تَرَّ      تَاوَّ = تَوَّ

تَتَّ      تَدَّ      بَرَّ      بَوَّ

بَبَّ      بَدَّ      تَرَّ      تَزَّ

بَثَّ      تَدَّ      تَثَّ      زَثَّ

بَاءَ      بَاتَ      تَأَّ      تَاتَّ

تَبَّ      تَرَّ      بَرَّ      تَوَّ

طَهَّ      جَكَ      كَيَّ      جَسَّ



نَ = نَ ..... نَبَ = نَبَ

نَنَنْ . نَنْنَ . نَبَبَ . بَنْنَ

نَبَّتَ . بَنَّتَ . تَبَّنَ . نَبَّبَ

رَبَّنَ . بَرَّرَ . بَدَّنَ . نَبَّدَ

بَدَّرَ . نَدَّرَ . ذَنَّبَ . وَنَدَّ

ذَرَّحَ . نَزَعَ . نَبَأَ . نَبَأَ

ثَبَّتَ . ثَبَّبَ . وَنَأَ . نَوَّفَ

بَدَّنَ . دَنَّتَ . وَنَنَ . نَوَّنَ



يَ = يَ . . . . . يَتَ = يَتَ

رَجِيَ . . . . . رَجِيَ . . . . . رَجِيَ

بَيْنَ . . . . . بَيْنَ . . . . . بَيْنَ

ذَهَبَ . . . . . ذَهَبَ . . . . . ذَهَبَ

أَزَعَّ . . . . . أَزَعَّ . . . . . أَزَعَّ

أَثَثَ . . . . . أَثَثَ . . . . . أَثَثَ

رَزَقَ . . . . . رَزَقَ . . . . . رَزَقَ

يَيَّ . . . . . يَيَّ . . . . . يَيَّ



جَارٌ = جَبْرٌ حَبْرٌ

بَابُجٌ . جَبَابٌ . خَدَابٌ . نَدَابٌ

شَابُجٌ . هَوَابُجٌ . خَزَابُجٌ . يَثَابُجٌ

نَابُجٌ . حَيَابُجٌ . جَسَابُجٌ . يَثَابُجٌ

مَثَابُجٌ . رَثَابُجٌ . يَفَثَابُجٌ . خَطَابُجٌ

نَطَابُجٌ . دَثَابُجٌ . فَثَابُجٌ . نَفَثَابُجٌ

يَاثَابُجٌ . جَلَابُجٌ . خَلَابُجٌ . يَمِيَابُجٌ

هَثَابُجٌ . يَثَابُجٌ . يَمِيَابُجٌ . حَمِيَابُجٌ



سَنَدٌ = سَدٌّ      شَرٌّ = شَرٌّ

صَدٌّ = صَدٌّ      خَرٌّ = خَرٌّ

سَنَنْ      بَسَنْ      شَتَّ      يَسَنْ

شَرٌّ      صَرَحَ      نَمَرٌ      عَدَّ

سَجَى      صَدَّ      غَوَى      شَقَى

نَظَّ      ضَفَّ      طَهَّ      نَزَّ

قَلَّكَ      خَشَّ      نَذَّ      صَدَّ

بَمَّ      شَمَّ      يَمَّ      يَضَّ

عَدَّ = عَدَّ . بَاعَ = بَاعَ

بَاعَ دَدَّ = بَاعَ

رَعَتَ . تَعَرَّ . عَتَّرَ . رَتَعَ

عَبَّصَ . صَعَبَ . يَغَضُّ . غِيضَ

حَدَّرَ . جَعَلَ . شَطَّكَ . نَبَغَ

غَيَّرَ . ثَغَّفَ . عَتَّقَ . مَنَعَ

ثَقَّلَ . نَظَّمَ . رَهَّقَ . وَسَّعَ

عَزَلَ . نَعَسَ . غَوَّضَ . يَغُضُّ



فَاعَ خَطَبَ هَدَمَ رَخَقَ

عَظَّمَ صَرَفَ عَنَّقَ يَسَّعَ

وَجَدَّ شَغَلَ غَسَقَ ضَحَكَ

Jika bacaan sering dipanjang-panjangkan karena berfikir  
membacanya putus-putus saja !

طَلَبَ أَخَذَ وَضَعَ ظَجَرَ

عَبَسَ بَتَّقَ فَتَحَ ذَطَعَ

صَعَدَ طَعَنَ شَبَّرَ غَضِبَ

غَزَرَ حَسَنَ نَشَطَ رَجَعَ

نَ فَا قَ = نَفَقَ

فَا قَ مَر = فَقَمَ      قَفَلَ = قَفَلَ

فَرَعَ      نَفَلَ .      قَبَحَ      وَقَعَ

فَصَحَّ      جَرَّمَ .      وَزَكَ      تَذَرَّ

هَيَّرَ      يَخْضُ .      شَرَعَ      نَظَفَ

يَدَاكَ      ضَغَطَ .      ثَقَلَ      شَفَعَ

عَظَمَ      يَسِرَ .      طَبَقَ      نَفَرَ

عَقَمَ      فَرَدَ .      فَرَشَ      بَعِيَ



سَأَلَ نَصَحَ . بَيْعَ يَقِنَ

عَطَدَ بَرَزَ . وَقَبَ صَرَفَ

خَرَجَ سَفَقَ . ذَهَبَ جَعَلَ

Membacanya boleh PUTUS-PUTUS

Meskipun digandeng hurufnya

غَسَقَ فَتَكَ . وَضَعَ نَفَسَ

بَعَثَ خَتَمَ . سَفَلَ حَشَرَ

شَطِيَّ جَزَعَ . فَقَدَ نَظَمَ

غَفَكَ صَعَبَ . وَسَقَ حَيْثَ

كَ تَبَ = كَتَبَ

سَ كَتَّ = سَكَّتْ = سَكَّتْ

كَذَبَ أَكَلَ . حَكَمَ تَرَكَ

كَفَرَ نَقَضَ . نَكَحَ فَتَى

كَدَّرَ حَفَظَ . زَكَأَ خَطَى

كَتَعَ ضَرَبَ . ثَنَأَ مَعَكَ

كَشَفَ غَسَقَ . وَيَرَ فَصَلَ

كَظَمَ خَدَّكَ . هَكَّدَ يَدَكَ



لَ نَنَّا اَ

Bila di muka/di tengah

Bukan لَ tapi اَ

لَبَد = لَبَد لَأ = لَأ

جَلَل . جَلَل . لَاجَل

لَسَّال . لَضَلَل . لَنَبَا

وَمَلَا . لَأَكَل . فَبَلَع

لَسَّالِكَ . وَخَطَّأ . وَخَلَا

سَالِكَ . لَلَامَر . وَحَلَل

ج مَع = جَمَع

عَمَدَ صَمَدًا . ظَلَمَ لَأَخَذَ

هَمَزَ نَفَحَ . غَنَمَ لَأَسَدَ

يَمَنَ بَلَغَ . ظَمَأَ لَأَمَرَ

كَمَدَ طَمَعَ . ضَوِيَ لَأَقَمَ

زَمَدَ صَنَعَ . مَلَكَ لَأَذَنَ

هَجَمَ كَذَبَ . هَشَمَ لَأَلَّلَ

ضَمَمَ بَشَمَ . قَلَمَ لَأَكَلَ



نَهَرَ = نَهَرَ

شَرِهَدَ = شَهَدَ . هَلَكَ = هَلَكَ

رَهَقَ كَهَنَ سَهِيَ لَأَفَّ

ضَهَشَ كَهَلَ هَيِمَ لَأَخَذَ

لَهَبَ عَهَدَ ظَهَشَ لَأَجَزَ

طَلَعَ قَهَرَ هَمَسَ لَأَفَلَ

مَنَّ كَلَّ سَعَى كَيَّ

مَكَ سَهَجَ سَهَجَ سَجَّ

Bila perlu boleh dikenalkan nama huruf ALIF

Bacalah Panjang

aa .... baa ....      baa .... = **بَا**      aa .... = **كَا**

مَا هَا ذَا لَا كَا نَا رَا

بَاتَ شَابَ يَانَ نَائِي

تَنَنَ شَانَ نَتَّ نَاتَ

يَبَ يَابَ بِيَّ بَائِي

بَيْنَ بَايِنَ بِيكَانَ بَايِنَا

عَبَدَ عَابَدَ عَابَدَا

رَحِمَ رَاحِمَ رَحَامَ رَاحِمَا

Mulai halaman yang ada "mad" ini, membacanya sebaiknya sudah mulai bersambung. Namun bila ada yang cenderung memanjangkan yang semestinya dibaca pendek, maka agar ditegur/diarahkan dengan : "Membacanya putus saja". Dan bila santri memanjangkan bacaan karena sambil berfikir huruf di depannya, maka harap dibaca putus pula. Terdiam sejenak tidak mengapa.



Bacaan Harus Jelas Beda  
 MANA PANJANG - MANA PENDEK

ثَابِتَ ثَبَاتَ ثَبَاتَا ثَابِتَا

زَابِدَ زَبَادَ زَبَادَا زَابِدَا

تَاوَبَ تَوَابَ تَوَابَا تَاوِبَا

جَاهِدَ فَاعَلَ ثَاقَلَ كَاتَبَ

نَاسًا طَالِبَ غَازَوْ عَالِمَ

حَاسِدَ نَاعِمَ لَاهِبَ مِبَالِلَ

نَانَا نَنَانَ نَنَانَا نَنَانَ

Bagus Dibaca dengan "Irama Nyanyian"

أَمْصَابَ أَعَادَ خَلَّاقَ ظَهَّارَ

يَشَاءُ أَقَامَ ظَمَأَ طَمَعَ

غَاسِقَ قَاتَلَ وَاعَدَ جَامَعَ

لَا شَرَّ

Keliru Baca  
Panjang - Pendek  
Adalah  
**KESALAHAN BESAR !!**

لَا مَنَعَ

فَهَمَّنَ

لَا خَاكَ

نَبَذَ حَلَلَّ بَلَغَ زَاهَقَ

أَفْلَا غَمَدَ مَلَّكَ فَلَّهَا

تَشَابَهَا . مَا عَرَفَا . وَصَلَوَاتَ



ثَ شَرَاعَ أَحَ هَقَ خَ غَ ذَ ظَ ضَ

Disiplin PANJANG PENDEK adalah  
MUTLAK dan PASTI  
Maka ..... hati-hatilah !

عَقَدَا كَسَبَا خَتَمَا صَمَدَا

بَعَثَا غَفَلَا خَلَفَا جَبَلَا

خَاطَبَا مَالَهَا بَايِنَا كَاسَبَا

خَالَطَ عَاطَمَا نَاشَرَا عَارِضَا

لَاعَزَ لَاشَرَ لَامَنَ

صَدَقَاتِكَ أَمَانَتِهَا فَاَمَاتِهَا



هَائِكَ . هَلَكْنَا . فَهَلَاكَ

قَاتَل . قَتَلْنَا . فَقَتَلَا

هَكَدَم . هَدَمْنَا . فَهَدَمَا

صَارَعَ . صَرَعْنَا . فَصَرَعَا

ضَارَبَ . ضَرَبْنَا . فَضَرَبَا

هَاجَمَ . هَجَمْنَا . فَهَجَمَا

قَاوَمَ . قَوْمْنَا . فَقَوْمَا

رَاذَلَ . رَذَلْنَا . فَرَذَلَا



نَجَحَ ح = نَجَحَ ح = نَجَحَ ح

ظَبْرٌ سَنَرٌ لَحْدٌ فَتَحَ

لَحْمٌ نَقَصَ مَطَرَ حَضَرَ

مَعَهَا فَمَتَا وَعَفَا تَمَنَّا

أَجَلٌ سَلَفَ أَبَدَ نَجَسَ

مَقَامٌ زَكَا مَتَاعٌ بَنَانٌ

أَمَلٌ فَلَحَ غَلَبَ شَجِرٌ

لَاخَذَ مَلَكَتَا لَأَصْبَا

Perhatikan terus  
PANJANG - PENDEKNYA

مَفَازَهَا . لَأَصْبَا . وَلَا لَنَا

أَقَامَهَا . تَنَازَعَا . طَعَامَهَا

فَهَلَكَ . لَبَّعَثَ . وَتَمَشَ

فَقَتَلَا . مَلَكَتَا . نَصَحَا

لَاخَكَ . ظَهَرَهَا . فَصَوَابَا

لَحْرَامَ . لَقَمَارَ . فَتَيَاتَ

مَا سَكَنَ . لَأَغْضِبَ . يَا سَعَدَ



بُ = بَا

أَدَمَ أَمِنَ وَهَذَا بِنُهَا

وَذَاكَ نَاعِمَ غَسَّالَ أَيْتَ

نَابَتَ جَاوَزَ كَسِبَا فَارِضَ

جَامِعَ خَاطِبَ وَكَانَا تَلُّهَا

يَدَانَا شَرَابَا طَحُّهَا بِنُهَا

وَذَاتَ مَقَامَ أَلْفَ مَابَ

سَمَوَاتَ . وَخَطًّا . صَلَاتَهَا

ي = Dianggap tidak ada

سَبَّحًا = سَبَّحِي

وَأَتَى فَاوَى يَتَأَمَّى فَنَادَى

فَهَدَى وَعَصَى لَعَلَى فَقَضَى

مَعَاشَنَا خَطَايَا ثَلَاثًا دَحْبَهَا

خَالَطَنَا صَوَابَ ضَالِّ سَرَابَ

أَخَذَ وَعَاطَ غَمَامَ شَهَادَ

جَهَالًا تَعَالَى عَجَابًا نَصَارَى

ثَمَرَاتَ . مَا عَرَفْنَا . وَبَصَلَهَا



رَمِيَّ . رَمِيَا . رَمِيَا

بَاعَ . بَاعَا . بَاعَا

قَامَ . قَامَا . قَامَا

دَامَ . دَامَا . دَامَا

عَانَ . عَانَا . عَانَا

زَادَ . زَادَا . زَادَا

حَالَ . حَالُوا . حَالُوا

قَالَ . قَالُوا . قَالُوا

لَمَّا = لَمَّا

وَمَانَهَا . وَوَلَّكَ . فَبَزَّهَا

ضَرَبَتَا . فَحَفَّظَ . جَمَعَمَا

سَقَى لَهَا . وَوَلَّقَ . فَافَلَا

فَرَأَشَهَا . وَوَلَّطَ . لَطَّلَعَا

تَنَازَعَا . فَخَفَّفَ . نَذَرَكََا

وَمَا بَنَى . وَوَلَّمَحَ . ذَنَّبَهَا

وَتَأَقَّهَا . وَوَشَفَّقَ . نَبَذَهَا



لَمَسَ . جَعَالَ . نَبَاتًا

غَفَرَ . نَهَارَ . مَعَاشًا

لَمَطَ . حَكَمًا . رَمَادًا

لَبِثَ . أَمَّابَ . غَسَاقًا

نَظَرَ . خَطَّايَ . مَابَا

لَمَزَ . أَثَاكَ . شَرَابًا

مَلَكَ . قَبَاضَ . هَدَانَا

قَدَرَ . وَمَكَالَ . عَذَابًا

يَدُهَا . شَهَادَتَا . فَتَعَالَى

لِمَا طَا . لِفَارِغًا . وَمَتَاعًا

أَشَاثًا . لِأُذُنٍ . فَمَقَامًا

لِكَانَا . حَيَوْتَهَا . لِأَعَازًا

لِمَا قَا . وَأُشْرًا . فَصَوَابًا

فَنَادَى . طَهَارَهَا . وَكَظَامًا

وَكَانَا . زَكُوتَهَا . لِيَدُهَا

لِخَافَا . لِأُشْرٍ . لِمُضِلًّا



لَامَعَاكَ . عَجَبَا . وَصَعَدَا

لَا مَصَبِرَ . شَطَطَا . لَغَسَلَا

مَا فَضَلَا . حَرَسَا . فَغَدَقَا

مَا حَسَنَ . قَعَدَا . وَأَمَدَا

لَا زَهَقَ . رَصَدَا . فَهَرَبَا

مَا عَظَمَ . شَهَدَا . وَثَقَلَا

لَا مَرَضَ . رَهَقَا . فَهَجَرَ

مَا غَدَقَ . خَطَبَا . فَسَجَدَ

لَا ذَبَّ . وَلَمْ . وَسَقُّهَا

وَنَاطَرَ . فَحَدَّثَ . لَشْرَابًا

بَنَانِكَ . لَفَسَّقَ . وَضَلَّ

وَخَافَظَ . فَحَضِرَ . فَخَسَارًا

تَذَكَّرَ . لَمَعَكَ . وَنَصَارًا

وَأَخَرَ . فَغَفَرَ . فَلَزَادَ

أَمَامَكَ . وَنَبَذَ . لَخَطَايَا

تَدْرَكَ . يَطْهَرُ . لَا زَاغًا



JELAS BEDAKAN

Bunyi Huruf dan Panjang Pendeknya

ثَاشْ سَاشْ سَاثْ صَاثْ

شَاءْ أَهْ أَعْ حَاهْ

قَاخْ خَاغْ كَاقْ تَاطْ

يَازْ زَاجْ زَاذْ ذَاظْ

ظَاضْ ضَاظْ ظَاضْ ظَاضْ

أَا هَا حَا خَا قَا غَا سَغِي

بَهَسْ سَمْرَ سَجْ، مَكْ صَابَارَا

**EBTA**

Bila bacaan telah benar makhrojnya (walau pelan)  
dan betul semua PANJANG - PENDEKNYA  
boleh naik ke jilid berikutnya .....

ثَابِتَ أَذَانَ صَافِحًا خَطَائِي

تَوَابَ هَمَزَ خَافَتَا لَضَلَا

لَعَنَ أَلْفَ حَكَمًا لَجَمَاعَ

غَلَطَ فَتَقَى نَذَارًا قَالَ بَلَى

فَطَغَى يَتَمَى لَمَكَا لَأَطَاعَ

شَهَادَ فَقَضَى حَوَايَا بَنَانِكَ

مَلَأَ عَجَلًا أَلَلَّ وَلَمَمَا



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BUKU IQRO'**  
CARA CEPAT  
BELAJAR MEMBACA  
AL-QUR'AN

اِقْرَأْ

3



Oleh : KH. AS'AD HUMAM  
Balai Litbang LPTQ Nasional  
Team Tadarus "AMM" Yogyakarta

EDISI REVISI TAHUN 2000

## PETUNJUK MENGAJAR JILID 3


1. Petunjuk mengajar jilid 1 nomer 1, 2, 3, 5, 7, 8 dan jilid 2 nomer 4 dan 6 masih berlaku untuk jilid 3 ini.
2. Bila santri sering memanjangkan bacaan (yang semestinya pendek) karena sambil mengingat-ingat huruf di depannya, maka tegurlah dengan "*membacanya putus-putus saja ?*" Dan kalau perlu huruf di depannya di tutup dulu agar tidak terpikir.
3. Guru tidak boleh memberi contoh satu kalimat yang menimbulkan anak ingin meniru irama maupun ingin meniru lancarnya si Guru. bila hal ini terjadi santri akan terbebani berpikir membaca kalimat-kalimat yang panjang, sehingga membacanya banyak kesalahan (panjang, pendek, mengulang-ulang, dsb), sedangkan pedoman mengajar santri hanya diajak berpikir per huruf atau dua/tiga huruf (bila menemui bacaan mad/idghom, dsb).
4. Bila santri mengulang-ulang bacaan (karena sambil berpikir bacaan di depannya).

Umpama :..... dibaca berulang-ulang, maka tegurlah dengan: *ada berapa ?*" Sebab pedomannya sekali dibaca betul tidak boleh diulang lagi.

Demikian, semoga sukses. Amin

Yogyakarta, 3 Juli 1990

Penyusun,



(H. As'ad Humam)

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun. Hak Cipta dilindungi Undang-undang Hak Cipta No. 002346/90



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bi = بِ

i = ِ

SEMUA DIBACA PENDEK  
TIDAK BOLEH DIPANJANG-PANJANGKAN

تَاتِ دِ نِ مِ

بَابِ بِبِ تَاتِ تَاتِ

نَبَاتِ نَبَاتِ نَبَاتِ نَبَاتِ

بَلَدِ بَلَدِ بَلَدِ بَلَدِ

عَمِلَ شَهِدَ فَهَمَ كَزِمَ

بِ تِ جِ خِ دِ دِ فِ فِ مِ

Ingat, jangan keliru.

Mana bacaan MAD (yang panjang)

Dan mana yang bukan MAD (yang pendek)

فَعَلَ فَاعِلٍ حَسَدَ حَاسِدٍ

كَتَبَ كَاتِبٍ جَلَسَ جَالِسٍ

خَطَبَ خَاطِبٍ قَرَأَ قَارِئٌ

بَايَنَ بَايِنٍ مَالِكَ مَالِكٍ

عَالِمَ عَالِمٍ شَاهَدَ شَاهِدٍ

صِرَاطَ جِهَادٍ طِبَاقَ بِلَادٍ

لِبَاسٍ عِمَادٍ فَاعِلٍ غِفَارٍ



ثَابِتَ عَامِصِفَ بَاطِلَ قَادِرَ

جِهَادَ فِرَاشِ مِهَادِ نِعَامِ

هَادِي نَاعِمَ ظَاهِرَ بَاطِنَ

كِرَامَ فِصَالِ خِيَامَ شِقَاقِ

لِجَامَ فَلَاقِ عِقَابِ عَذَابِ

حَافِظًا سَاخِطًا غَاسِقًا نَافِصِرًا

لَايِنًا دَافِعًا لَازِمًا ثَاقِلًا

قَانِتَاتٍ وَمَاهِي عَابِدَاتٍ شَاطِئَهَا

حَاضِرَاتٍ وَعَافِينَ خَاشِعَاتٍ

عِقَابَهَا غِنَاعِيَا لَاعِبَاتٍ

رَافِعَاتٍ نَازِعَاتٍ نَاشِطَاتٍ

صَادِقَاتٍ وَمَالِيَا فَمَائِيَا

زَكَاتِكَ فَوَاحِشَ لَوَاقِعَ

فَهَائِكَ جَنَاحِكَ جَارِيَاتٍ

كَذَلِكَ مَغَارِبَ مَضْجَعِ

لَهَائِكَ مَنَامِهَا مَرَاضِعَ



شَهِدَ لَعِبَ غَنِمَ رَضِيَ

فَعَالًا فَاعِلٍ كِتَابٍ كَاتِبٍ

جِهَادَ جَاهِدِ غِفَارَ غَافِرٍ

Biar Pelan, asal betul .....  
PANJANG PENDEK - nya

لَاقَى قَانِتَاتٍ عَاطَى طِبَاقَ

عَدَسِيهَا بَصَلِيهَا حَاسِدٍ بِشَارِكٍ

وَمَاهِي عَائِيهَا سَافِلِيهَا شَاطِئِيهَا

قُنْتُ فَيْتِي عِيدِي مَوَالِي

Bii = بِئِ i = يَّ / يِّ

Guru boleh mengenalkan nama YA' sukun atau YA' mati

جَجِي نِنِي لَلِي فِي فِي

فَاعِل فِعَالَا قَاتَل قِتَالَا

وَأَعَدَّ وَيُعَادَا يَأْسَرُ يَيْسَارَا

Harus tepat .....

PANJANG PENDEK - nya !

بَأْمِرَ بَصِيرَ قَادِرَ قَدِيرَ

سَامِعَ سَمِيعَ حَاكِمَ حَكِيمَ

بَشِيرًا نَذِيرًا كَبِيرًا صَغِيرًا



Bacaan yang PENDEK.....

Bacalah dengan BETUL-BETUL PENDEK

خَشِيعَ      خَاشِعِينَ      خَاشِعَاتِ

صَعِمَ      خَاضِعِينَ      صَغِيرًا

حَفِظَ      حَافِظِينَ      حَافِظَاتِ

زَيَانِيَةً      لَازِيِدَ      طَالِبِينَ

صَدَقَ      صَادِقِينَ      صَادِقَاتِ

حَضَرَ      حَاضِرِينَ      حَاضِرَاتِ

لَعِبَ      لَاعِبِينَ      لَاعِبَاتِ

هـ = هـ = هـ = هـ = هـ  
 هـ = هـ = هـ = هـ = هـ

هَلَاكَ نَهَرَ لَفِيهِ هَذِهِ

هَمَزَ شَهِدَ وَبِهِ فَكْرَهُ

هَدَمَ فِيهِمَا أَيُّهُ عِبَادَهُ

BIAR PELAN ..... ASAL BENAR

لَا زَيْدَ فِي جِيدِهَا بِكَالْفِهِ

بِغَلِيظٍ بِضَمِّينِ وَجَسَادِهِ

وَطَاغِينِ يَمِينِكَ مِيثَاقِهِ



طَاهِرِينَ خَالِدِينَ حَسَابِهِ

ظَالِمِينَ ثَاقِفِينَ شَاهِدِهِ

لَهَاتِفَ زَكَاتِكَ إِذَانِهِ

حَافِظِينَ شَاطِئَهَا فَمَالِي

طَالِبِينَ ذُكْرِينَ أَصَابِعِهِ

فَهَالِكَ مَوَالِيكَ بِنِيكَادِهِ

فَيْتَمِي مَسَاكِينَ بِنَاصِرِهِ

ULANG-ULANGILAH!  
SAMPAI TIADA KELIRU LAGI

هـ --- هـ --- هـ --- هـ --- هـ

ثا --- ثا --- ثا --- ثا --- ثا

فَاتِحَةٌ أَخِيْرَةٌ رَافِقَةٌ غَابِرَةٌ

عَامِلٌ صَالِحٌ إِلَهَةٌ جِجَارَةٌ

وَنَادٌ خَطِيْئٌ وَأَبِيْهٌ بَصْرِيٌّ

عَقِيْمًا مَحِيْمًا دَاحِضَةٌ غَاشِيَةٌ

مَضْجَعٌ أَمِيْنٌ طَعَامِيٌّ وَكَدِيٌّ

بِحِجَابٍ مَرِيْضًا زِيَانِيَّةٌ قَتْرَةٌ



Nii = نِي      ii = ---  
 ي = dianggap tidak ada

سَمِيعٌ      بَصِيرٌ      حَامِيَةٌ      عَصَابِي

لَطِيفًا      خَيْرًا      حَفِظْتِ      بِيْنِي

شَفَاعَةٌ      مَبْعُوثٌ      بَطِيءٌ      مَقَامِي

عَزِيزٌ      حَكِيمٌ      نِعَاجُهُ      عَذَابِي

حَلِيمٌ      قَدِيرٌ      نَاصِيَةٌ      كَاذِبَةٌ

نَوَاصِي      وَيُعَادَا      تِجَارَةٌ      فَطَرَنِي

شَاطِئٌ = شَاطِئٌ      فِي نَارِهِ      فِي عَقْبِهِ

لَيْشَيْنَ جَنَاحِكَ وَالْهَتِي

خَطِيئَتَيْنِ وَزَكَاةَ بِمَفَازَتِهِ

وَاعْظِيئَيْنِ فَخَشِيئَتَ بِنَاصِرِهِ

بِأَخِيكَ غِشَاوَةَ فِي زِينَتِهِ

شَاطِئَيْنِ مَرَاضِعَ وَخَلِيلِهِ

كَفَى بِنَا صَلَوَاتٍ عَلَى غَنِيئِي

خَاضِعِيئَيْنِ وَهَذِهِ عِبَادَتِهِ

إِذَا قَضَى أَسَاطِيرَ وَحَفِيظًا



كَذَلِكَ سَمَوَاتٍ بِالْهَتْنَا

فَبَاطِلٍ حَامِلَتِ رَضِي لَهَا

عَاصِفَةٌ فَشَاطِئِي بِضَيْنِي

لَا حَيَوَاتٍ وَجَعَلَنِي بِلِسَانِنَا

عِبَادِهِ وَطَاغِينِ فَجَابَا

حَفِظِينَ هَامِدَةٌ وَأَصِيلَا

أَحَادِيثَ وَاللَّهِ بِمِثْلِكَ

لَا يَبِيهِ مَا حَبْتِهِ وَأَخِرِهِ

Bu = بُ

u = ُ

بِ بِ بِ بِ تِ تِ تِ تِ حِ حِ حِ حِ

دِ دِ دِ دِ دِ دِ دِ دِ دِ دِ

فَعَلَ فَعَلَ فَعَلَ فَعَلَ كَتَبَ كَتَبَ كَتَبَ كَتَبَ

قَرَأَ قَرَأَ قَرَأَ قَرَأَ خَرِبَ خَرِبَ خَرِبَ خَرِبَ

حَسَنَ حَسَنَ فَهُوَ فَهُوَ يَمُنَ يَمُنَ خَلِمَ خَلِمَ

تَتَّبِعَ تَتَّبِعَ قَرِيبَ قَرِيبَ لَأْمَرٌ لَأْمَرٌ لَأْمَرٌ لَأْمَرٌ

رَجُلٌ رَجُلٌ عَظَمَ عَظَمَ كَثُرَ كَثُرَ رُسُلٌ رُسُلٌ



خَالِقٌ بَارِيٌّ قَابِضٌ بَاسِطٌ

حَلِيمٌ عَظِيمٌ حَفِيظٌ جَلِيلٌ

وَالِدٌ بِصِيرٌ اٰتِيَةٌ بَقَرَةٌ

رَافِعٌ وَّاسِعٌ بَاعِثٌ مَاجِدٌ

رَقِيبٌ مَجِيدٌ شَهِيدٌ وَكِيْلٌ

مُعِيْدٌ مُمِيْتٌ مُقِيْتٌ مُجِيْبٌ

رَوَّاسِيٌّ وَعَيْسِيٌّ سَكْرِيٌّ نَوَّاصِيٌّ

عَمَلُهُ عِبَادُهُ بَايَتِي مُتَعَالِيٌّ

ظُلُمَاتٍ كَوَاكِبٍ وَمُهَيْتَا

بِمَثَلِهِ حَامِلَتِ فَخَشِيَّتِ

مَقَالِيدُ سَيُصِيبُ وَيَرِثُهَا

صِدِّقِينَ مَا يَغِيظُ غَاشِيَةَ

بِغْلَامٍ وَيُمِيتُ فَضْلَهُ

سَرَائِيلَ صَوَامِعُ بِكَلِمَتِهِ

سَتَجِدُنِي فَتَثِيرُ فِي صُحُفِي

وَزَادَهُمَا طَاعِمِي شَيْعَتِهِ



Buu = بُوْ

uu = وْ

Guru boleh mengenalkan nama WAU sukun atau WAU mati

ثَابَ يَتُوبُ قَالَ يَقُولُ

عَادَ يَعُودُ كَانَ يَكُونُ

يُرِيدُونَ يُقِيمُونَ لَمُقِيمِي

يَتَلَاوَمُونَ يَتَخَفَتُونَ بِنَاصِرِهِ

يُفِيضُونَ يُغِيثُونَ نِعَاجِهِ

سَامِدُونَ رَاغِبُونَ يَرِثُنِي

هُنَالِكَ فَعَفَرُوهَا تَلُومُونِي

## قَالُوا

ا = dianggap tidak ada

قَالُوا بَلَىٰ فإِذَا رَكِبُوا لَا تَخُونُوا


كَانُوا النَّاعِبِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا

صَابِرُونَ وَأَوْزَابُطُونَ هَاجَرُوا وَجَاهِدُوا

وَجَدُوا مَا عَمِلُوا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا

فِي كَيْدِ وَالِكَ وَكَانُوا النَّاشِئِينَ

فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا قَالِ مَا نَهَكُمَا



MAAF, JANGAN DITERUSKAN DULU !

bila masih keliru panjang - pendeknya



Huu = هـ uu = هـ

مَعَهُ يَدُهُ وَكَهْ يَرَهُ

إِذَا سَجَى فِيمَا كَانُوا مَوَازِينَهُ

يَنَابِيعَ وَعَجَبُوا حَافِظِينَ

وَنُسُكِي مُتَقَابِلِينَ فِي جِيدِهَا

لَقُضِيَ تَطْهَرُونَ جُنُودَهُ

أُوتِيَتْهُ وَأَتَوَّابِهِ فَمَثَلَهُ

وَلَا يُوثِقُ وَشَاقَهُ فَسَلَكَهُ

أَجِيزُوا    يَجِيزُونَ    وَجَعَلَهُ

أَقِيمُوا    يَقِيمُونَ    وَرَسُولَهُ

أَفِيضُوا    يَفِيضُونَ    صَلَاتَهُ

أَطِيقُوا    يَطِيقُونَ    أَمْرَهُ

أَطِيعُوا    يَطِيعُونَ    فَمَا رَأَى

أَمِيتُوا    يَمِيتُونَ    فِي ضَعْفِي

أَزِيلُوا    يَزِيلُونَ    فَخَلَقَهُ

WALAU LANCAR, TAPI TAK BENAR  
MAKA JANGAN DILANJUTKAN

Ulangi sampai betul semua.



يَنكَافُونَ      يَسُوقُونَ      لِيُوقُونَ

يُحِيطُونَ      يُضَيِّعُونَ      يُغَيِّثُونَ

فَجَعَلُوا      وَظَلَمُوا      لَكَذُوقُوا

جَانِحُوا      لِنُدَيْقِهِ      فَعَقَرُوهَا

مَنَامِهَا      خُطْبَيْنِ      سَتَجِدُنِي

مَعِيشَتَهَا      فَطَوَّبُ      بِمِثْلِهِ

مَنَازِلَ      إِذَا قَضَى      وَارِثِينَ

بِحَازِهِ      شَخَفَهَا      فَشَاطِيءِ

نَاكِسُوهُ فَتُشِيرُ مَفَاتِحَهُ

فَوَكَّرَهُ كَالْحُونَ كِتَابَهُ

تَذُودِنِ شُخُومَهُمَا لَا يَأُودُهُ

صَاغِرُونَ سُبُلَنَا لَلْبِشُوا

خَطِيئِينَ لِمَا يُوحَى خَرَقُوا لَهُ

ظُهُورِكَ رَعُوسِهَا تَبَاشِرُوا

كِرْهُونَ تَلُومُونِي لَا تَنَابِرُوا

يُوزَعُونَ مَقَالِيدُ وَيَسُوا

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي لِيُؤَسِّفُوا وَآخُوهُ

نَسِيًا حَوَّتَهُمَا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ

أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا كَفَىٰ بِنَاحِسِينَ

هَذِهِ بَضَاعَتُنَا وَثَلَّثَ وَرُبِعَ

قَالُوا اتَّقَاسَمُوا بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ

Membacanya boleh terputus-putus  
ASAL BENAR WALAU PELAN

قَالَ مَا نَهَيْكُمْ مَا لِيَّاسُهُمَا لِيُرِيَهُمَا

صَلَاتِكَ = صَلَوَتِكَ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ



صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا حَدِيثُ مُوسَى

كَفَرُوا بِآيَاتِنَا كَانَ عِقَابِ

بِمَا خَلَقَ وَعَلَا قَالَ لَا تَخَافَا

فَمَا يَكُونُ لَكَ مَتَاعِنَا فَآكَلَهُ

وَهُوَ يَعْظُمُهُ وَهَامِنْ وَقَارُونَ

فِيهَا فَوَاحِكُهُ هَارُونَ وَمُوسَى

لَهَا مَا لِكُونَ وَلِعِينُوا بِمَا قَالُوا

MAAF, ULANGILAH ..... !

Sampai benar semuanya.

فِي صُحُفٍ مُّوسَىٰ قَالَ لَا غَالِبَ

هُنَا قَاعِدُونَ فَسَلَكَهُ يَنْابِيعَ

وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ وَلِي فِيهَا مَا رَبُّ

كَفَرُوا وَسَبَقُوا يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ

صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ

جَاهِدُوا وَاصْبِرُوا أَحَدَنَا مَكَانَهُ

وَنَا بِجَانِبِهِ كَانُوا يَسَارِعُونَ

مَا كَادَ يَزِيغُ وَمَا كَانُوا سَبِيقِينَ

يَتَلَاوَمُونَ غُفْلُونَ رَاغِبُونَ

حَفِظِينَ خَشِعِينَ خُطِيبِينَ

فِي بَطُونِهِ يِعْبَادِهِ قَالَ لِأَبِيهِ

مَقَالِيدُ وَسَنَائِدُ لَا يَأُودُهُ

سَيْمِيبُ هُوَ يَعْظُهُ فَتَهَاجِرُوا

يَا مَجِيدُ يَا بَاعِثُ يَا رِءُوفُ

وَكَذَلِكَ بَعْصَاكَ مَا مَنَّكَ

وَجَعَلَنِي شَيْعَتَهُ يَا مُتَعَالِي



شُرَاوِدُ فَتْهَاهَا كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ

وَحينَ تَضَعُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى

هَدُنَا سُبُلَنَا تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ

فِيهَا مَعَايشَ بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

صَابِرُونَ وَرَابِطُونَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ

فَقَعُوا لَهُ سُجُودِينَ وَطُورِ سِينِينَ

أَوْذُوا فِي سَبِيلِي وَكُتِبَ وَرَسُولِهِ

لَسِحْرَانِ يَرِيدَانِ وَخَرَقُوا لَهُ بِنِينَ

وَيَذُرْكَ وَالْهَيْتَكَ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِي

هَارُوتَ وَمَارُوتَ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْتِنَا

قَالُوا تَقَاسَمُوا فَتَعَاطَى فَعَقَرَ

كَانَ قَمِيمُهُ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِيْنَ

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا وَصُحْبَتُهُ وَبَيْنِيْهِ

فَلَا تَلُومُوْنِيْ وَلُومُوْا وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ

Jika belum benar semua, jangan diteruskan ke halaman EBTA. Coba diulangi lagi !

## EBTA

Salah besar, bila keliru bacaan

PANJANG - PENDEKNYA

فَاذَارِكِبُوا أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ

إِلَهَهُ هَوَاهُ وَلَا يَكَادُ يَسِيغُهُ

مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَقَوْمَهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلَهَا

كَفَرُوا سَبَقُوا فَذَوْقُوا عَذَابِي وَنَذِرُ

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ

وَبُرُكٌ فِيهَا خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ

وَهَا مَنْ وَجُنُودُهُمَا كَانُوا خَطِيئِينَ



بِمَا تَفِيضُونَ فِيهِ لَاتَقُولُوا أَرْعَانَا وَقُولُوا

وَلَا يَكَادُ بَيْنُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ

فَغَلِبُوا هُنَالِكَ تَرَكَ آلَ مُوسَىٰ وَآلَ هَارُونَ


كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا وَرَسُولُهُ كَبِتُوا كَمَا كَبِتَ

وَكَانُوا النَّاعِمِينَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ

لَهُ بَرَزَقِينَ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا

Bila belum betul semua, lebih-lebih .....

PANJANG - PENDEKNYA



**STOP!**

**JANGAN DINAIKKAN!**

Sabarlah ..... Mengulang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BUKU IQRO'**  
CARA CEPAT  
BELAJAR MEMBACA  
AL-QUR'AN

اِقْرَأْ

4



Oleh : KH. AS'AD HUMAM  
Balai Litbang LPTQ Nasional  
Team Tadarus "AMM" Yogyakarta

EDISI REVISI TAHUN 2000

HUMAM

## PETUJUK MENGAJAR JILID 4

1. Petunjuk mengajar jilid 1 nomer 1, 2, 3, 5, 7, 8 dan jilid 2 nomer 6 serta jilid 3 nomer 3 dan 4 masih berlaku untuk jilid 4 ini.
  2. Mulai jilid 4 ini sudah boleh dikenalkan nama-nama huruf (lihat jilid 1 halaman 36). Dan tanda-tanda seperti :  
Dlammah = ..... Kasrah = ..... Fathah = .....  
Tanwin = ..... Sukun = .....
  3. Bila santri keliru baca di tengah/di akhir kalimat, maka betulkanlah yang keliru saja, membacanya tidak perlu diulang lagi dari awal kalimat. Nah, setelah selesai sehalaman, agar mengulangi kalimat yang ada kekeliruan tersebut.
  4. Untuk memudahkan ingatan huruf-huruf qolqolah : boleh dengan singkatan BAJU DI THOQO.
  5. Agar menghayati bacaan yang penting dan untuk membuat semarak, baik andaikata santri diajak membaca bersama-sama/koor, yaitu halaman 3, 9, 11, 19 dan 23.
  6. Untuk menentukan bacaan yang betul pada halaman 23 (hamzah sukun dst.) santri diajak membaca dengan harokat fathah dulu dengan berulang-ulang dan baru dimatikan  
Contoh : تَكْ → تَكَ → تَكُ dan seterusnya.
  7. Pada jilid 4 ini belum ada waqof, artinya semua dibaca utuh apa adanya. pelajaran waqof dimulai pada jilid 5.
- Demikian, semoga sukses. Amin

Yogyakarta, 3 Juli 1990

Penyusun,



(H. As'ad Humam)

**Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun. Hak Cipta dilindungi Undang-undang Hak Cipta No. 002346/90**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ban = **بَا**

an = **ـَـ**

**BAN DIBACA PENDEK !**

| = dianggap tidak ada

بَبَا تَتَا ثَثَا جَجَا

ذَذَا زَزَا فَفَا كَكَا

غَغَا ظَظَا يَيَا لَلَا

أَحَدَا أَحَدَا عَمَلْ عَمَلَا

حَسَنَ حَسَنًا صَالِحَ صَالِحًا

نَذِيرًا نَذِيرًا بِشِيرًا بِشِيرًا  
نُوحًا نُوحًا جُوعًا جُوعًا



وَهْدَى قَعْدًا مَبَارَكًا شَهَادَةً

جَمِيعًا قُرُونًا عَضُدًا سَبِيلَهَا

زَلَقًا رَغْدًا طَعَامًا ضَلَلًا

Harus selalu diperhatikan :

- Bacaan mad (panjang)
- dan yang bukan mad (pendek)

سَمِيعًا عَلِيمًا عَزِيزًا حَكِيمًا

عَذَابًا أَلِيمًا وَأَمِيرًا ظَالِمًا

يَتِيمًا فَقِيرًا صَعِيدًا جُرًّا

رَسُولًا طَهُورًا حَلِيمًا غَفُورًا

Bin = ب

in = ـــــــــ

تَتِ دَدِ دِ دِ

مَمَّا مِ مِ وَوَا وِ وِ

حَاسِدًا حَاسِدٍ غَاسِقًا غَاسِقِ

ذَلِكَ لَهَبٍ لَأَعَادِ جِجَارَةٍ

مَرَضٍ كُفُؤًا مَفَازًا لِسَانِي

عِيشَةٍ فِي دِينِ مِيزَانِ الْيَمَامَا

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ جَحِيمًا



عِمْدٍ عَنِيبًا قَفْصٍ قَامًا

عَلَقٍ غَنَمٍ رَسُولُهُ كِتَابِهِ

هَزُورًا هَشِيمًا كَذِبٍ طُهُورٍ

غَضَبٍ وَاحِدَةٍ مِائَةٍ ضَاكِكَةٍ

كَلِمَةٍ بَقْرَةٍ لَاعَادٍ طَاغُوتٍ

خِطَابٍ رَقَبَةٍ شُهُودٍ هَاوِيَةٍ

مَفَازًا مَبَارَكًا شُعُوبٍ كَاظِمٍ

نُورَهُ فَبْرَهُ صَالِحًا عَلِيمًا

Bun = بُ

un = ُ

بَابُ بَابِ

سَسِ سَسِ سَسِ

عَامِلُ عَامِلُ عَامِلُ  
بَشِيرًا بَشِيرًا نَذِيرُقَادِرُ قَادِرُ قَادِرُ  
نَاصِحُ نَاصِحُ نَاصِحُرَحِيمًا رَحِيمًا رَحِيمًا  
غَفُورًا غَفُورًا غَفُورًاذَهَابُ ذَهَابُ ذَهَابُ  
فُرَاتُ فُرَاتُ فُرَاتُ  
ظَلَمْتُ ظَلَمْتُ ظَلَمْتُ  
صَلَوَةٌ صَلَوَةٌ صَلَوَةٌعَلَقَةٌ عَلَقَةٌ عَلَقَةٌ  
هُمَزَةٌ هُمَزَةٌ هُمَزَةٌ  
غَشَاوَةٌ غَشَاوَةٌ غَشَاوَةٌ  
شَفَاعَةٌ شَفَاعَةٌ شَفَاعَةٌ

Harus jelas beda :

MANA BACAAN YANG PANJANG  
DAN MANA YANG PENDEK

قِرْدَةٌ خَسِيْبٌ

حَدِيثُ مُوسَى

مَنْفِقِيْنٍ مَنْفِقَتِ

تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ

وَعَذَابٌ عَظِيْمٌ

فَقَالَ لِصَاحِبِهِ

سَمِعْتُ عَلَيْهِ

عَذَابٌ غَلِيْظٌ

غَفُوْرٍ حَلِيْمٌ

لَطِيْفًا خَبِيْرًا

اِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيْظٍ

عَلِيْمًا حَكِيْمًا

وَكُتِبَ وَرُسِلَ

قُنْتُ حَفِيْظٌ



Baina= بَيْنَ      Biina= بَيْنَ      i= يَ

دَيْنِ      دَيْنِ      عَيْنِ      عَيْنِ

كَيْفَ      كَيْفَ      حَيْثُ      حَيْثُ

لَيْسَ      لَيْسَ      غَيْرَ      غَيْرَ

خَيْرًا      خَيْرًا      غَيْبٌ      غَيْبٌ

وَرَأَيْتَ      لَغَيْظٌ      مَيْمَنَةً

لَهُ شَيْءٌ      زَيْتُونِ      عَيْنَكَ

جَزِينًا      مُمْصِطِرِي      فَدَيْنَهُ

لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا      لِأَدَمَ فَسَجَدُوا

لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ      فَجَمَعَ كَيْدَهُ

يَكِيدُونَ كَيْدًا      بَيْنَهُمَا الْعِيبَيْنِ

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ      بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ

وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا      لَأَيُّ لَيْفٍ قُرَيْشٍ

طَيْرًا أَبَا بَيْلٍ      يَقُولُ لِيَلَيْتَنِي

لَأَرِيَبَ فِيهِ هُدًى      فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

**ULANG-ULANGILAH !**

**sampai tiada keliru lagi**

Bau= بَوُ      Buu= بُو      u= و---

تُوبَ      تَوُبَ      سُوفَ      سَوُفَ

جُوفَ      جَوُفَ      لُوحَ      لَوُوحَ

مَآمَ      صَوْمَ      رِيِبَ      رِيِبَ

مَاتَ      مَوَّتَ      لِيْلَ      لِيْلَ

عَانَ      عَوُنَ      عِيْنَ      عِيْنَ

مَوْعِظَةٍ      لِرَوْحِكَ      أَوْحَى لَهَا

مَشَوَّافِيهِ      أَخَوِيْبِكَ      مَوْعِدَةٍ



Bila keliru, mengulanginya tidak harus dari awal, cukup di lafadz yang keliru itu saja.

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا  
سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

فِيهَا خَلِدُونَ  
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمَا

وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ  
وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ

لَشَيْءٍ عَجِيبٍ  
مَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

أَوْ لِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ  
أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ

كَانَ عَلَيْهِمْ خَيْرًا  
يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةً

وَصَحِبْتَهُ وَبِئْتَهُ  
رَضِيَ لَهُ قَوْلًا

Lam = لَمْ      m = مَمْ

لَمْ لَمْ لَمْ      أَمْ أَمْ أَمْ

هَمْ هَمْ هَمْ      كَمْ كَمْ كَمْ

عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ      أَمْرُهُ

هَمًّا جَمْعًا      رَأَوْهُمْ ذَلِكُمْ

حَمَلًا كَيْدَهُمْ      غَضَبِي فَوْقَكُمْ

عَظِيمٌ فَلَهُمْ      خَمْسَةٌ بَيْنَكُمْ

حَيَوُهُ      حَوْلَكُمْ سُورَةٌ

وَأَشَارَهُمْ زَمَهْرِيرًا فَغَشِيَهُمْ

رَأَيْتَهُمْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

وَأَيْدِيكُمْ قَمَطِيرًا رَأَوْا آيَةً

يُمِيتُكُمْ صَلَاتِهِمْ سَمِعَهُ

مَمَطِرْنَا أَخَوَيْكَ غَيْرِكُمْ

وَنَظْمَانُ مَمْدُودًا إِيمَانِهِمْ

فِي قُلُوبِكُمْ مَيْمَنَةٌ بِأَمْوَالِهِمْ

تَمَارِفُهُمْ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ



يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ


إِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

لِبَاسِهِمْ فِيهَا حَرِيرٌ يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ

جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ

أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي صَلَوَاتُهُمْ يُجَافِقُونَ

يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ



Maaf, ULANGILAH  
Sampai benar semuanya.

Man = مَنَّ n = نُنْ---

أَنَّ إِنَّ هُنَّ هِنُّ عَنَّ عِنُّ

إِنَّ هُوَ مَنَّ أَمَّنْ عَنَّ عِبَادِ

فَإِنْ أَصَابَهُ مَنَّ خَشِي أَنْهَرًا

وَمِنْهُ مَنَّ أَوْحِي مِنْ خَيْرٍ

إِنَّ هَذَا مَنَّ حَيْثُ عَنْهُمَا

مِنْ غَيْرٍ أَنْعَمْتَ أَنْ هَدَاكُمْ

بُنْيَانٍ دُنْيَايَ صِنْوَانٍ قِنْوَانٍ

لَمَّا خُنَّهٗ أَوْلَادُهُمْ وَيُنْعِيهِ

تَرْهَقُهَا قِتْرَةٌ عَلِمْتُ إِنَّ عَصِيْبَتَهُ

كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا مِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ سَمِيْعٌ عَلَيْهِمْ

لَا يَزَالُ بَنِيَانَهُمْ فَمَا لَهُ مِنْ هَاكِ

لَا وَضِعُوا خِلَلَكُمْ وَإِلَى ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ

مِنْ إِلَهِ غَيْرِهِ خَلَوْا إِلَى شَيْطَانِهِمْ

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ



# أَبُّ أَحَجَّ أَدُّ أَطُّ أَقُّ

Harus jelas terdengar qolqolahnya

أَبُّ وَأَبْقَى تَبَدُّوا حَسِبْتُمْ

أَحَجُّ يَجْعَلُ يَجْزُونَ وَجْهَهُ

أَدُّ تَدْخُلُوا قَدْحًا وَجَدْنَا

أَطُّ أَطْعَمَهُمْ لِيَطْفَى مَطْلَعُ

أَقُّ أَقْلَامٍ يَقْرَأُ مَقْتَحِمُ

يَبْعَثُكَ أَجْمَعِينَ يَمِدُّكُمْ خَلَقْنَا



أَجْرٌ غَيْرٌ مَّمْنُونٍ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لِشَهِيدٍ

يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ هَٰذَا الشَّيْءُ عَجَابٌ

يَجْعَلُونَ أَمْبَابَهُمْ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَابِي

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ أَلْمُ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

BIARLAH PELAN, ASAL BENAR

أَتُ - غَلَبَتْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

إِثُ - مِثْقَالَ مَثْنَى وَثُلُثَ

أُحُ - يُحْسِنُونَ هُوِيَ حِي وَيَمِيتُ

أُخُ - أَخْلَدَهُ يَخْطِفُ أَيْمَارَهُمْ

إِذُ - بِإِذْنِهِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ

أَرُ - أَرْضٌ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا

إِرُ - رِزْقًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

أَسُ - نَسْتَعِينُ يُونُسُ فِي صِدُورِ



أَشُّ - أَشْتَاتًا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ

أَصُّ - يَصْلُونَهَا تَصْلِي نَارًا حَامِيَةً

أَضُّ - أَضْعَافًا كَيْدُهُمْ فِي تَضْلِيلٍ

أَظُّ - يَظْهَرُ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا

أَغُّ - مَغْفِرَةٌ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي

أَفُّ - أَفْدَةٌ لَا يُؤَدُّهُ حِفْظُهُمَا

أَهُّ - أَهْلِكَ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

أَلُّ - أَلْفِي فَالْهُمَهَا فَجُورَهَا

فَلْيُضْحِكُوا قَلِيلًا      وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا

هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ      هُمْ أَظْلَمٌ وَأَطْغَىٰ

وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ      وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ

لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً      يَتَّبِعُونَ صِدْقَهُمْ

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ      فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ

وَمِنْ خُرَيْبٍ يَوْمَئِذٍ      فَقَالَ لِمَ كَذِبْتُمْ

أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ      اسْتَخْلَصْتُمْ لِنَفْسِي

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ      وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ

## HARUS JELAS PERBEDAANNYA

نَأْتُ تَعْتِكُ تَقُّ

تَأْكُلُ أَعْمَى أَكْرَمُ أَقْوَامٍ

رَأْفَةٌ لَعْنَتِي سَكْرَةٌ تَقْهَرُ

أَخْطَأْنَا بَعْدَهُ لَذِكْرِي رِزْقَانَا

إِمْتَلَأْتُ أَعْطَيْنَا يَكْثُرُ سَقِيهَا

مُؤْمِنٌ مَعْتَدٍ مُكْرَمٌ يَقْرَأُ

يَوْمِيهِ نِعْمَتِي بِكُمْ عُمِّي



فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعَهُمْ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ

خَصْمٍ مِنْ بَغْيٍ بَعْضِنَا أَمْهَلَهُمْ رَوِيدًا

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ شَيْعًا

نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا

فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا لِسَعْيِهَا رَاضِيَةً

يَقُولُ أَهْلَكَ مَالًا خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

Sebaiknya diulang-ulang sampai lancar  
benar.

## KELIRU PANJANG PENDEK

## BISA MERUSAK ARTI

Maka hati-hatilah !

مَا كَثِيرٌ فِيهِ أَبَدًا      لِسَعِيهَا رَاضِيَةٌ

فَلِيدٌ وَقُوهُ حَمِيمٌ      بِعِجْلِ حَنِيدٍ

لَا تَقُولُوا رَاعِنَا      وَأَوْفُوا بِعَهْدِي

لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ      خُذْ بِيَدِكَ ضِغْتَنَا

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ      وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ

أَسْفَلَ سَافِلِينَ      فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

هَدُنَا سُبُلَنَا      وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٍ

يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ لَا يظلمونَ فِتِيلًا

تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَظلمَ عَلَيْهِم قَامُوا

نَسِيًا حَوَّتَهُمَا لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا

يَوْمَ لَا يَغْنِي عَنْهُمْ لَا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ

هُمْ أَظلمَ وَأَطغى وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ هُوَ أَضْحَكُ وَإِبْكُ

تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلي دِينُ



مَنْ أَحْسَنُ دِينًا      ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا      نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

مَا يَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ      وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ      فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ

يَعَامُ إِذَا بَعِثَ      إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ

حَسْبُهُمْ إِيْقَاطًا      فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ

هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ      مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

**SABAR-ULANGILAH LAGI!**

sampai tak ada yang keliru.

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

وَلَا يُؤْدِبُهُمْ جِظَاهُ مَا

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ۖ وَآتُوهُم مِّنْ مَّوَدَّةٍ بَاطِنًا ۖ سَلَامًا ۖ وَهُوَ بِمَا فِي

الْبُحْرِ خَبِيرٌ ۚ وَمَا كُنَّا بِمُتَّبِعِينَ

أَذْهَمَ عَلَيْهَا قُوعُودٌ ۖ فَسَيَحْبِطُ أَعْمَالُكُمْ

وَكَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۖ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۖ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ

كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۖ أَفْرِغْ عَلَيْنَا مَبِيعًا

بَعْضِنَا بِبَعْضٍ      اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا      فِي طُغْيَانٍ هُمْ يَعمَهُونَ

اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ      فَكَثُرَتْ جِدَالِنَا

فَارْتَقَبْ يَوْمَ تَأْتِي      اِعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ      اِحْمِلُ فَوْقَ رَاسِي

وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ      فَاحْبِطْ اَعْمَالَهُمْ

فِي حِفْظِكُمْ      تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ اَضْفَانَكُمْ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ      اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ



إِنْ أَطَعْتَهُمْ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ

وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ وَخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ

قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ وَلَقَدْ رَأَاهُ

وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ بِعِجْلِ حَنْبِيذٍ

وَهُوَ يَطْعَمُ وَلَا يَطْعَمُ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ

أَدْخَلُوهَا بِسَلَامٍ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

Bagus, tetapi ulangilah. Sehingga tidak ada yang keliru lagi. Barulah EBTA.

# EBTA

- Makhrojnya
- MAD (bacaan-bacaan yang panjang)
- Qolqolahnya
- Bedanya →

أَعُكُ قُ

Membacanya boleh pelan, asal betul semua.

هُوَ يَبْدِي وَيَعِيدُ      وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

لَلبَيْتِ فِي بَطْنِهِ      وَكَمَلَيْتُمْ مِنْهُمْ رِجَالًا

فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ      وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ      خُدَيْدِكَ ضِعْفًا

هَذَا بَهْتَانٌ عَظِيمٌ      فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْهَدُونَ

مَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ      كَيْدُهُمْ فِي تَضَلُّلٍ

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً  
يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ

وَاسْحَقَّ وَيَعْقُوبُ  
حَفَفْنَهُمَا بِنَخْلٍ

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ  
وَكَثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

يَلِيَّتَنِي لَمْ أَشْرِكُ  
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا

لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ

لَا تَوَّأخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ

MAAF, bila belum betul semua, jangan naik  
dulu ke jilid berikutnya.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BUKU IQRO'**  
CARA CEPAT  
BELAJAR MEMBACA  
AL-QUR'AN

اقرأ

5

Oleh : KH. AS'AD HUMAM  
Balai Litbang LPTQ Nasional  
Team Tadarus "AMM" Yogyakarta

EDISI REVISI TAHUN 2000

## PETUNJUK MENGAJAR JILID 5

1. Petunjuk mengajar jilid 1 nomer 1, 2, 3, 5, 7, 8 dan jilid 2 nomer 6, jilid 3 nomer 3 dan jilid 4 nomer 3 masih berlaku untuk jilid 5 ini.
2. Halaman 23 adalah surat Al-Mu'minin ayat 1-11 sebaiknya santri dianjurkan menghafalkan. Syukur dengan artinya.
3. Bila ada beberapa santri yang sama tingkat pelajarannya boleh sistem tadarus, secara bergiliran membaca sekitar 2 baris, sedang lainnya menyimak.
4. Santri tidak harus mengenal istilah-istilah tajwid, seperti idghom, ikhfa' dsb. yang penting secara praktis betul bacaannya.
5. Agar menghayati bacaan yang penting dan untuk membikin suasana semarak, baik andaikata santri diajak membaca bersama-sama/koor yaitu halaman 16 s/d 19 (3 baris dari atas).

Demikian, semoga sukses. Amin

Yogyakarta, 3 Juli 1990

Penyusun,



(H. As'ad Humam)

**Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun. Hak Cipta dilindungi Undang-undang Hak Cipta No. 002346/90**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alif dianggap tidak ada

وَالْحَمْدُ

الْحَمْدُ

لَكَ أَكْرَمُ

بِالْحَمْدِ

مَعَ أَكْرَمِ

بِالْفَاتِحَةِ

وَالْفَجْرِ

وَالْعَصْرِ

وَالْإِيمَانِ

بِالْإِسْلَامِ

فِي الْكِتَابِ

وَاقْتَرَبُ

وَاسْتَغْفِرُهُ

وَأَمْرَاتُهُ

وَالْعَدِيدِ

مَا الْقَارِعَةُ

بِاسْمِكَ

عَلَى الْآفِئَةِ

فِي الْأَرْضِ

بِالْمَرْحَمَةِ

وَالْمُشْرِكِينَ

لِلْكَافِرِينَ

فِي الْجَحِيمِ



**INGAT !** Banyak huruf Alief  
dianggap tidak ada

مَا كُتِبَتْ مَا اقْتَلَوْا فِي الْأَرْضِ

سَيُطَلُّهُ وَمَقَامِي وَبِالْآخِرَةِ

مِنَ الْغَيْظِ وَالْأَفْئِدَةِ مَدْعَيْنِ

غِيَاوَةٍ مَعْجَرَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

وَمَا أَوْهَمُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَمَوْعِظَةٍ

فِي طُغْيَانِهِمْ وَالْأَمْصَالِ كَمِشْكُورَةٍ

فِيهَا اسْمُهُ لَاتُؤَاخِذُنَا غُفْرَانَكَ

Bila waqof/berhenti  
huruf terakhir dibaca  
sukun mati.

○ امِين ← امِين ○

○ نُسُتَعِينُ ○ ... مَهْتَكِدِينِ ○

○ عَيْنِ الْيَقِينِ ○ ... وَطُورِ سَيْنِينِ ○

○ يَكْذِبُونَ ○ ... مُسْتَهْزِءُونَ ○

○ مُعْرِضُونَ ○ ... مُصْلِحُونَ ○

○ فِي الْعُقَدِ ○ ... إِذَا حَسَدَ ○

○ فِي تَضَلُّلٍ ○ ... أَصْحَابِ الْفِيلِ ○

○ يَخْتَلِفُونَ ○ ... مِنَ الْمُتَرِبِينَ ○

وَقَوْمَهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ○ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنِينَ ○

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ○ مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ ○

وَكَثُرَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

أَعْلَمُوا مَا لَا يَعْلَمُونَ ○ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ○

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ○ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ○

إِرْمِذَاتِ الْعِمَادِ ○ وَفُرْعُونَ ذِي الْأَوْتَادِ ○



فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ○ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ○ وَمَا كَانُوا مَهْتَدِينَ ○

لَا يَفْلِحُ الْكٰفِرُونَ ○ هُوَ الْخَسْرَانُ الْمَبِينُ ○

بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ○ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ○ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ○

سَنَسِمْهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ○ وَهٰذَا الْبَلَدُ الْاَمِينُ ○

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ○ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ○ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ○

Bila waqof/berhenti  
tanwin (◌◌◌) dihilangkan  
dan dibaca panjang

أَبَدًا ← أَبَدًا ◌

يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزُنًا ◌ وَالْعَدِيثِ ضُبْحًا ◌

فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا ◌ فَاَلْمُغِيرَتِ مُبِحًا ◌

فَأَثَرُنِ بِهِ نَقْعًا ◌ فَوَسْطُنِ بِهِ جَمْعًا ◌

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ◌ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ◌

بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ◌ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ◌

كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ◌ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ◌

فَسَوْفَ يَدْعُونَ ثُبُورًا ◌ وَيَصُلُّوا سَعِيرًا ◌

Bila waqof/berhenti

berubah menjadi

sukun/mati

أَنِيتُ ← أُنِيَهُ

تَصَلِي نَارًا حَامِيَةً ○ تَسْقِي مِنْ عَيْنٍ أُنِيَةً ○

لِسَعِيهَا رَاضِيَةً ○ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِأَغِيَةً ○

مَا لَمْ تَحِطْ بِهِ خَبْرًا ○ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفَا ○

مَا نَحْنُ مُسْتَيَقِنِينَ ○ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِينَ ○

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ○ فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ ○

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○ لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ○

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَسَّهَا ○ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا ○



وَالْقَمَرِ بِحُسْبَانٍ ○ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ○

فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ○ يُضْعِفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ○

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ○ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ○

مَا كَثُرَ فِيهِ أَبَدًا ○ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ○

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ○ فَحَشَرَ فَنَادَى ○

الْمُرْيَاتِ كُمْ نَذِيرٌ ○ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ○

فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ○ كَهَشِيرِ الْمُحْتَظِرِ ○

وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ○ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ○

# لَا أَعْبُدُ - أَوْلِيَّكَ

.....: /

Dibaca panjang 5 harokat.  
Huruf و dianggap tidak ada.

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ○ أَوْلِيَّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

عَلَىٰ آثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ ○ وَسَلَّمْ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ ○

أَوْلِيَّكَ عَلَىٰ هُدًى ○ مَا كَثَبْنَاهُ فِيهِ أَبَدًا ○

الْمَنْجَعِ لِلْأَرْضِ مَهَادًا ○ بِهَذَا الْحَدِيثِ اسْفَا ○

مِنْ أَوْلِيَاءَ ○ أَوْلِيَّكَ هُمُ الْكُفْرَةُ الْفَجْرَةُ ○

لَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ ○

إِنْ نَ = إِنْ

Setiap bacaan yang menghadap tasydid (.....) suara ditekan, ditahan 2 harokat dan berdengung.

أَنَّ أَنْ عَمَّ عَمَّ

إِنَّهٗ - إِنَّهَا - أُمَّهٗ - أُمَّهَا

إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ○ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ○

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ○ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ○

لِيُنشِئَ فِيهَا أَحْقَابًا ○ حَدَّ آيِقٍ وَأَعْنَابًا ○

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ○ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ○



نُ (نُ) ← Masuk dengan suara dengung

خَيْرٌ ← نِسَاءٌ ○ مِنْ ← مَا

وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرِينَ ○ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ○

قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ○ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ

لَيَقْضَىٰ آجَلٌ مُّسَمًّى ○ إِنَّ كَيْدِي مُتِينٌ ○

وَلَنْ نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ○ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ○

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ○ خَشِبٌ مُّسْنَدَةٌ ○

## الـ

ال (Alief Lam) dianggap tidak ada

وَالنَّهَارُ وَالنَّاسُ بِالنُّذُرِ

○ فِي صُدُورِ النَّاسِ ○ أَلَوْ سِوَا سِ الْخَنَّاسِ ○

○ وَالنُّزُوعِ غَرْقًا ○ وَالنُّشُطِ نَشْطًا ○

○ وَكُنَّا نَحْوُ مَعَ الْخَائِضِينَ ○ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ○

○ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصِيرِينَ ○

○ عَمْرٍاءَ لَوْنًا ○ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ○

○ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخْرَةً ○ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ○

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ○ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ○

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ○ لِلطَّغِينِ مَأْبَا ○

إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ○ ثُمَّ اغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ○

وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ ○ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ○

فِيهَا سُرٌّ مَّرْفُوعَةٌ ○ وَالْأَوَابُ مَوْضُوعَةٌ ○

إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ○ إِنَّهُ لَمِنَ الْحَمِيدِ ○

إِنَّ إِلَيْنَا أِيَابَهُمْ ○ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ○

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ○ وَاَدْخُلِي جَنَّتِي ○



Setiap bacaan yang menghadap tasydid agar ditekan dan ditahan 2 harokat :

كَبَّرَ يَكْبِرُ رَتَّلَ يَرْتِلُ

أَثَرَ يُؤَثِّرُ عَجَلَ يَعِجِلُ

لَحَنَ يَلْحَنُ سَحَرَ يَسْحَرُ

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ○ وَارزُقْنِي فَهْمًا ○

الْهَيْكَلِ التَّكَاثُرِ ○ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ○

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ○ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ○

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا ○ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ○

بَدَّلَ يَبْدِلُ أَدَانَ يُوَدِّنُ

كَرَّمَهُ يَكْرِمُهُ وَزَرَعَ يُوَزِّدُ

فَسَّرَ يَفْسِّرُ بَشَّرَ يَبَشِّرُ

وَإِثْرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ○ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ○

وَالْمَلِكِ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ○ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ○

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ○ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ○

مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ ○ سَنَدُّعُ الزَّبَانِيَةِ ○

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ○

نَصَحَ يَنْصَحُ فَضَلَ يَفْضِلُ

خَطَأَ يَخْطِئُ نَظَّفَ يَنْظِفُ

صَعَبَ يَصْعَبُ صَغَرَ يَصْغُرُ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ○ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ○

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ ○ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنزِلَتْ ○

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ○ إِنْ الَّذِينَ يَغْضُونَ أَسْوَابَهُمْ ○

وَالْحَقُّنِي بِالصَّالِحِينَ ○ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ○

وَيَسْئُرُ الْمُتَوَلِّيَ الظَّالِمِينَ ○ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ○



خَفَّفَ يَخْفِفُ وَقَطَّ يَقْطُ

سَكَّنَ يَسْكِنُ عَلَّمَ يَعْلَمُ

أَمَّنَ يُؤَمِّنُ مَنَعَ يَمْنَعُ

كَانَهُمْ لَوْلَوْ مَكْنُونٌ ○ عَلَى سُرٍّ مُتَقَبِّلَيْنِ ○

وَلَقَدْ مَكَّنَهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَكُمْ فِيهِ ○

أَرَعَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ○ عَبْدًا إِذَا صَكَّى ○

حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ○ وَالْأَتَّغْفِرُ لِي وَتُرْحَمَنِي ○

مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ○ وَاتَّبِعْ هَوَاهُ فَتَرْدَى ○

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَتَا ۝

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝

وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ۝ أفرعيتم اللت والعزى ۝

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ۝

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَابُ ۝

وَفَالِكِهِمْ مِمَّا يَخْتَارُونَ ۝ وَحَمِيطِهِمْ مِمَّا يَشْتَارُونَ ۝

رَبِّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

ketemu  
 ←  
 dibaca dengung
 

 > م
 

 اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ
 

 ب

فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ الْيَوْمِ ○ وَوَجْنَاهُمْ بِجُورِ عَيْنٍ ○

نُورٍ - يَنْوِرُ ○ سَهْلٌ - يَسْهَلُ ○

بَيْنَ - يَبِينُ ○ نَبَأٌ - يَنْبَأُ ○

الْاَسَاطِيرِ الْاُولٰٓئِنَ ○ كَاٰنِهِنَّ بِيضٌ مَّكْنُونٌ ○

عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ○ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزٰقِيْنَ ○

وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا ○ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا ○ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ○



لَا يُكَلِّفُ وَلَا تُحْمِلُنَا رَبَّنَا أَطْمِسُ

الْأَذْرِيَّةَ فِي شَاكٍ فَاَلْمَدِيرَتِ

يَفِرُّ الْمَرْءُ هُمُ الطَّاعُونَ مِنَ الشَّيْطَانِ

الضَّلَالَةَ بِالْغُدُوِّ أَمِنَ السُّفَهَاءُ

جُوبِيَهُنَّ أَوْ أَبَائِيَهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ

لَا شَرْقِيَّةَ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا

ثُمَّ اقْتَضَوْا وَمَلَائِكَتِهِ فِي السَّاءِ

وَالضَّرَاءِ أَوْلِيَاءَهُمْ فَالظُّلْمَتِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ① الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

② وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ③ وَالَّذِينَ هُمْ

لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ④ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْوَجِهِمْ حَافِظُونَ ⑤

الْأَعْلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ

غَيْرُ مَمْلُومِينَ ⑥ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْعَادُونَ ⑦ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ⑧

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ⑨ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُورِثُونَ ⑩ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑪

Bila sebelumnya  
berharokat A atau U  
maka dibaca LOH

○ وَاللَّهُ - رَسُولُ اللَّهِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ○ اللَّهُ الصَّمَدُ ○

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ○ فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ○

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ ○ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ○

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ○ فَضَلَّ اللَّهُ الْمُجْهِدِينَ ○

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ○ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ○ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ ○

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ○



Bila sebelumnya  
berharokat i  
maka dibaca LAH

بِاللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ○ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ○

أَفَآمِنُوا بِكَرَامِ اللَّهِ ○ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ○

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ○

يَجَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ○ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ○

قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ○ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ○

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ○ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ○

Masuk dengan suara tak dengung

نُ (نُ) ← ر  
 Jadi suara نُ /tanwin, hilang

مَنْ ← رَأَى      مِنْ ← رَزَقِ

مِنْ ← رَبِّهِمْ      مِنْ ← رُسُلِهِ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْفِرُ ○ إِنْ إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعِي ○

لَهُ نِشَاطًا بَارِئًا ○ فَلِلَّهِ الْأُخْرَىٰ وَالْأُولَىٰ ○

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ○ وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ○

فِي عَيْشِهِ رَاضِيَةٌ ○ فَهَزَمُوهُمْ بِأُذُنِ اللَّهِ ○

Masuk dengan tak dengung  
 نُنْ ( ) ← ل  
 Jadi suara نُنْ /tanwin, hilang

وَمَنْ ← لَمْ خَيْرٌ ← لَكُمْ

ذِكْرٌ لِلْعَامِينَ ○ إِنَّهُ بِهِمْ رُءُوفٌ رَحِيمٌ ○

يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ○ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ○

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ○

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ ○ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ○

وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ○ مِنْ مَّغْرَمٍ مُّقْتَدُونَ ○

خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ○ يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْخُفَى ○



أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ○ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ○

طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ○ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ○

يُؤَيِّنَانَا إِنَّا كُنَّا طَائِفِينَ ○ تَوْصُونَ بِهَا أَوْلَادِينَ ○

وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ○ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ○

بَعْدَ الْقَوْمِ الْيَاقِينُونَ ○ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ○

وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ○ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ○

مِنَ أَبِي ثَيْبٍ خَلَقَهُ ○ إِلَّا مَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ ○

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ○ يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ○



.....Bacaan harus panjang 6 harokat  
baru diikuti dengan tasydid.

وَلَا الضَّالِّينَ

جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ○ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ○

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ○ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ○

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ ○ وَالْأَمْرُ يُومَدِ لِلَّهِ ○

وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ○ إِنَّ اللَّهَ بِأَلْعَامِرِ ○

بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ○ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ○

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ○ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ○

الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ○ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ○



إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى ○ إِنْ إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعَى ○

وَالصَّفَاتِ صَفًّا ○ فَالزُّجُرَاتِ زُجْرًا ○

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ○ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ○

نِسَاءً وَاكْمَرْتُمْ لَكُمْ ○ مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا نَعَامِكُمْ ○

فَضِلُّوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ ○ إِلَّا إِنِّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ○

وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَنِينًا ○ إِنْ لِلَّهِ مَعَ الصَّابِرِينَ ○

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○ وَإِنَّ لِلَّهِ ثَوَابَ حَكِيمٍ ○

حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ○ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ○



EBTA &gt;

Bila telah benar semuanya  
walaupun pelan pembacanya  
Boleh dinaikkan ke jilid 6.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ○ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ○

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ○

وَيؤْتُونَ الزَّكَاةَ ○ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ ○

لِكُلِّ آوَابٍ حَفِيظٍ ○ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ○

إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ○ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ○

وَيَلِ لِكُلِّ هَمَزَةٍ لَمْرَةٌ ○ هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ○

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ○ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِئَةِ ○



وَإِنْ لَمْ تُغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسْرَيْنِ ○

فَطَافَ عَلَيْهَا طَافٍ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ○

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ ○

وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بَآيَاتُنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ○

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ○

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ○


**MAAF** !

Bila belum benar semuanya  
sebaiknya tak segan mengulang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BUKU IQRO'**  
CARA CEPAT  
BELAJAR MEMBACA  
AL-QUR'AN

ا  
ق  
ر  
6



Oleh : KH. AS'AD HUMAM  
Balai Litbang LPTQ Nasional  
Team Tadarus "AMM" Yogyakarta

EDISI REVISI TAHUN 2000



## PETUNJUK MENGAJAR JILID 6

1. Petunjuk mengajar jilid 1 nomer 1, 2, 3, 5, 7, 8 dan jilid 2 nomer 6, jilid 3 nomer 3, 4 dan jilid 4 nomer 3 serta jilid 5 nomer 3, 4. Semuanya tetap berlaku pada jilid 6 ini.
2. Materi halaman EBTA ini sebaiknya dihafalkan, syukur dimengerti terjamahnya.
3. Walaupun telah menginjak jilid 6 ini, pedoman membaca "**Pelan Asal Benar**" tetap berlaku. Jadi tak apalah andaikata ada santri yang membacanya sangat lamban/tersendat-sendat/seperti banyak saktah atau terhenti. Asalkan setiap yang dibaca itu betul semuanya, maka yang penting adalah benar.  
Mengenai kelancaran besok akan terwujud setelah tadarus beberapa juz, Insya Allah.
4. Santri jangan diajari dengan bacaan berlagu walaupun dengan irama murottal. Sedang irama murottal dalam kaset yang dikeluarkan Team Tadarus "AMM", dimaksudkan bagi yang sudah lancar dalam bertadarus Al-Qur'an. Jadi tidak untuk pengajaran buku IQRO'.
5. Mengenai pelajaran tanda waqof, disederhanakan dan pengenalannya disatukan di awal (halaman 21).
6. Sebelum EBTA, ada tambahan pelajaran Huruf-huruf Awal Surat.

Perlu diketahui : Bahwa pengajaran buku IQRO' (jilid 1 s/d. 6) sudah dengan pelajaran tajwid yaitu tajwid praktis, artinya santri akan bisa membaca dengan benar sesuai dengan ilmu Tajwid. Bila telah betul-betul lulus EBTA jilid 6, maka harap langsung tadarus Al-Qur'an dengan disemak mulai juz 1, 2, 3 dan seterusnya. setelah beberapa juz/lancar mulai sambil diajarkan ilmu Tajwid (bisa dengan buku Tajwid Praktis terbitan Team Tadarus "AMM").

Demikian, semoga sukses. Amin

Yogyakarta, 3 Juli 1990

Penyusun,



(H. As'ad Humam)

**Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun. Hak Cipta dilindungi Undang-undang Hak Cipta No. 002346/90**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نُ (نُ) ← Masuk dengan dengung  
Ditekan & ditahan 2 harokat

مِنْ ← وَأَحَدٍ ○ عَنِ ← وَالْيَدِ

جَبَّأَوْ نَبَاتًا - سِرَاجًا وَهَاجًا - زُجْرَةً وَاحِدَةً

رَحْمَةً وَعِلْمًا ○ عَدُوًّا وَحَزَنًا ○

وَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ○ مِنْ وَرَائِهِمْ مَحْيُطٌ ○

أَحْسَنُ آثَا وَرِءْيَا ○ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ○

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ○ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ○

بِهَتَانًا وَإِنَّمَا مَبِينًا ○ مِنْ وَرَائِهِ وَلَا نَصِيرٌ ○



وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۝ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۝

سَبْعَةٍ وَثَامِنُهُمْ ۝ هُدًى وَبَشْرٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

وَفِرْحَانٍ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ ثَوَابًا وَخَيْرَ مَرْدًا ۝

الَّذِي جَمَعَ مَا لَمْ يَأْتِ بِهُ ۝ يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝

طَاعَةَ وَقَوْلٍ مَّعْرُوفٍ ۝ وَجَنَّتِ وَعُيُونٍ ۝

نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝ وَفَاكِهَةً وَأَبْسًا ۝

لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۝ فِي سَمُومٍ وَأَحْمِيمٍ ۝

مِنْ وَرَاءِ عَذَابٍ ۝ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝



وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ○

لَوَلِيَّتٌ مِنْهُمْ فَارًا وَالْمَلِئْتُ مِنْهُمْ رُعبًا ○

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ○

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ○

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَآئِهَا الصُّلُبِيزِينَ ○

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ○

وَأَهْرَفِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مِمَّنْ هتَدُونَ ○

نُ (نُ) ←  
 Masuk dengan dengung  
 Ditekan & ditahan 2 harokat  
 ← ي

أَنْ ← يُوصَلْ مِنْ ← يَوْمِيذِ

○ مِنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ○ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ○

○ أَنْ يَقُولُوا إِلَّا كَذِبًا ○ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ○

○ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ○ ضَاكِكَةٌ مَسْتَبْشِرَةٌ ○

○ أَنْ هُوَ الْأَوْحَى يُوْحَى ○ عِلْمُهُ شَدِيدُ الْقُوَى ○

○ لَعِبْرَةٌ لِمَنْ يَخْشَى ○ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ○

○ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ○ فِي جَنَّتِ يَتَسَاءَلُونَ ○

وَظِلِّ مِّنْ يَّحْمُوهُمْ ۝ أَوَابًا وَّنَا الْأَوْلُونَ ۝

لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۝ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۝

مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ۝

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۝

فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۝ لَّآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

مَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَاءَ السَّبِيلِ ۝



○ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

○ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ

○ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ

○ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ

○ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ

○ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَعُ لَهُمْ

○ مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ

○ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

ن (نُ) ← م ← ب  
 Nun sukun / tanwin  
 berubah menjadi

مِنْ ← بَعْدِ      نُوْر ← بَيْتِي

أَبَدًا إِيْمًا - كَافِرِيْه - عَوَانِ بِيْنِ

الْأَنْبِيَاءُ - وَضَاقِيْقِيْه - مِّنْ بَآسِيْ

بَغِيَّآئِيْنَهُمْ - حِلْ بِهَذَا - لِيَجْنِيْه

هَذَا مَغْتَسِلٌ بَارِدٌ ○ ذَلِكْ رَجْعٌ بَعِيْدٌ ○

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ○ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

اللَّهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهِ ○ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّبْصِرٌ ○

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ۝

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ ۝ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ ۝

أَضْعَافًا مُضْعَفَةً ۝ قُلُوبٌ يَوْمِيذٍ وَاجِفَةٌ ۝

كَلَّا لَيَنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝

كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ لَهُمْ ۝ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ۝

وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝

لَنْسِفَعًا بِالنَّاصِيكَةِ ۝ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۝



فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنُوبِكَ ○

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْأُبْحَارِ ○

فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ○

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلِيًّا تَضَاهُونَ مِنْهُمْ إِنْ هُمْ إِلَّا يَهْتَكُمُ ○

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ○

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَجِّهٍِّ مَنْ بَعْدِهِ ○

فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ○

أَوْزَعْنِي - وَهِيَءَ لَنَا - قُرَّةَ أَعْيُنٍ

أَيُّ الْحَزِينِينَ - أَوْزَنُوهُمْ - مَنَاسِكُكُمْ

يُعْجِرُونَ - يَا جُوجَ - مَا جُوجَ

الْأَفِيدَةَ - إِلَهَهُ هُوَهُ - الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ

مِنْ مَضْفَةٍ - فَلِلَّهِ الْمَكْرُ - الْمَرْمِلُ

يُعْجِبُكَ - فَأَوْوِ إِلَى الْكَهْفِ - وَالْمُنْخِنِقَةَ

يَسْتَنْبِئُونَكَ - فِي بَحْرِ رَجِيٍّ - لَا تُلْهِبُهُمْ

وَلَا أَمِينٍ - شَنَّانُ قَوْمٍ - جَنَّةُ الْمَأْوَى

لِشَأْيٍ - لَا يَأْيَسُ - إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ

(رِئَسَانُ)

Dibaca samar-samar & dengung

Bila bertemu dengan salah satu dari  
15 huruf di bawah ini

① --- ت < أَنْتَ - وَأَنْتُمْ تُتْلَى

مَنْ تَطَّوَعَ - أَنْ تَقُولُوا - أَوْ أَكُنْتُمْ

جَنَّتِ بَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ○

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○

② --- ث < بِالْأُنثَى - وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ○

خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ○ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى ○

عَلَى الْحَنْثِ الْعَظِيمِ ○ وَرِيحَانٍ وَجَنَّتِ نَعِيمٍ ○



نَمَتَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝

٢٤ --- ج --- مِنْ جُوعٍ - وَمِنْ جَاءٍ - مَوْصٍ جَنَفًا

التَّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝

وترى كل أمة جاثية ۝ كل أمة تدعى إلى كتبها ۝

ونادينه من جانب الطور الأيمن وقرينه نجيا ۝

٢٤ --- د --- مِنْ دُونِهَا - عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ۝

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلاً ۝

○ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْرَى ○

○ ٥ --- ذُكْرٌ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ - عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ ○

○ يَتِيمًا إِذَا مَاتَ قَرِيبًا ○ أَوْ مَسْكِينًا إِذَا مَاتَ قَرِيبًا ○

○ وَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

○ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ○

○ ٦ --- ز - أَنْزَلَ - إِنْ زَلَلْتُمْ - لَنْزِعٍ ○

○ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ○

○ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ○

وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

٧ --- سِ < مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِيهَا - قَوْلًا سَدِيدًا ○

خَمْسَةَ سَادِسُهُمْ ○ قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا اكْفُرَهُ ○

الْأَمِنْ أَلَى اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ○

لَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ○

٨ --- شِ < مِنْ شَعَائِرٍ - قُلْنَا إِذَا شَطَطْنَا ○

وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ○ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشُرَهُ ○

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ○



وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۝

٩ --- ص < مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ - مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ ۝

يَوْمَ لَا يَغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَى ۝

١٠ --- ض < وَطَلْحٍ مَنضُودٍ ۝ لَهُ ذُرِّيَةٌ ضِعْفَاءُ ۝

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ۝

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُسْحُورًا ۝



○ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ○

○ ١١ --- ط < فِدْيَةٌ طَعَامُ - حَلَالًا طَيِّبًا ○

○ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ○ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ○

○ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ○

○ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ○

○ ١٢ --- ظ < هُمْ يَنْظُرُونَ - عَلَى آرَائِكَ يَنْظُرُونَ ○

○ الْأَمْرَاءُ ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ○

○ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ○



١٣ -- فِ < وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ - فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرُ

إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ ○ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ○

يُرَبِّ إِنْ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ○

إِنَّا رَأَيْنَاهُ إِلَيْكَ وَجَاءَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ○

١٤ -- قِ < مِنْ قَبْلِكُمْ - بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ○

يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ○

وَالْجَبَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ○

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ○



١٥ --- كَ < فَمَنْ كَانَ - خَيْرًا كَثِيرًا

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۝ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا ۝

إِنَّا مَكْنَالُهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا إِلَيَّ الْقِيَامِ الْيَوْمِ كَرِيمٍ ۝

إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ۝

يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عِشْرِينَ أَوْ ضُرُوبًا ۝

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَهْمًا ۝

Boleh waqof boleh terus	ح	Harus waqof	م
Bukan tempat waqof utama terus	لا	Berhenti lebih utama	قل
Dibaca terus lebih utama	صلة	Boleh waqof disa- lah satu tanda tsb.	:: ::

○ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ تُكْرَهُ

○ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِحُسْرِهِمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

○ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

○ إِلَّا أَمْرًا تَهُ قَدَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَيْبِ

○ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

○ وَاتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَنَّةٌ وَيُبْسِ الْمَهَادُ

قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ

إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا

إِنْ مَسَّكُمْ قُرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قُرْحٌ مِثْلَهُ

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ



Cara mewaqofkannya adalah suara "hun"  
ditekan dan ... ditahan 2 harokat

--- هُنَّ

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ <sup>قله</sup> عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ

كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ○ فَإِنْ لَمْ يَصِبْهَا وَأَبَلْ فَطُلَّ <sup>قله</sup>

○ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ <sup>قله</sup>

○ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ <sup>قله</sup> ج

○ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

○ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ <sup>قله</sup>

○ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ



Bila waqof, "an" dibaca  
"aa.." (panjang 2 harokat)

ماءٌ ← ماءَا

وَبَثُّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ○

الَّذِي يَنْعَقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ○

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ ○

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ○

فَمِنْ اضْطَرَّ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ○

إِنَّا مَكْنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عَسَبًا ○

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فَرِاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ○

Bila waqof, suara "fat" ditekan dan diikuti bunyi ح dengan suara rendah.

وَافْتَحُ

وَافْتَحُ ۝ وَيَا أَيُّهَا الْعَشْرُ ۝ وَالشَّفْعُ وَالْوَتْرُ ۝

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝

وَالصُّبْرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۝

أُولَئِكَ يَرْوُونَ إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ وَيَقْبِضِينَ ۝

إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ فِيهَا مَرْجُوهُ ۝

إِصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعَالَمِ وَالْجَسْمِ ۝



Huruf-huruf Qolqolah bertasydid,  
bila diwaqofkan :

- Ditekan suaranya, ditahan  
2 harokat, diikuti qolqolah

رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ

... أَيُّ لَهَبٍ وَتَبٍّ ○ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

اعْلَمُوا أَنَّ بَيْنَ اللَّهِ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذِ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ



وَبِرَّ آبَائِي وَإِلَىٰ آبَائِي لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۝ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأُنْفُسُوا مِنْ حَوْلِكَ ۝

أَنْ تَعْتَدُوا ۝ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبُرِّ وَالْتَقُوا ۝

كَدَّأَبِ الْأَفْرَعُونَ ۝ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۝

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۝ وَمِنْ

أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ۝ لَا تَعْلَمُهُمْ ۝



فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا

○ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

○ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

○ فَنُتِ تَبَّتْ عِدَّتِ سِحَّتِ تَبَّتِ وَأَبْكَارًا

Sebelum EBTA, santri agar dikenalkan dan diajarkan huruf-huruf awal surat di bawah ini, dengan bacaan yang benar-benar betul.

الْم . الْمَص . الر . الْمَر .

كَهَيْعَص . طه . طسَم . طس .

يس . ص . حم . عسق . ن .



EBTA. Jilid 6 ini tidak mutlak pada halaman 29 s/d. 32 saja. Tetapi bila diperlukan boleh halaman-halaman lain untuk meyakinkan kemampuan bacaan santri. Bilamana telah benar semuanya barulah di LULUS-kan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ اَللّٰهُمَّ

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ○

وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقْمًا حِكْمَةً اِنْ اَشْكُرْ لِيَّ وَرَوْضَةً

فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ○

وَإِذْ قَالَ لَقْمًا لِّابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ

بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ○ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ

بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلِيًّا وَهْنٌ وَفِصْلَةٌ

فِي عَامَيْنِ اَنْ اَشْكُرْ لِيَّ وَوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيرُ ○



وَإِنْ جَاهَدُكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ

عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ

سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ سُبْحَانَ اللَّهِ عَنِ حَشَاةِ النَّاسِ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِي

السَّمَوَاتِ أَوْفًا

الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝

يُنَبِّئُ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۝ إِنَّ ذَلِكَ

مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ وَلَا تَصْغُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ



وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ

مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ

مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝

أَمَّنَ الرَّسُولُ بَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ

كُلٌّ أَمَّنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفِرِقُ

بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۝ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا

مَا اكْتَسَبَتْ وَرَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ

اٰخُطَا نَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِمْرًا كَمَا

حَمَلْتَهُ عَلَي الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا


مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْنَا

وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

### PENTING

- ❖ Bila telah benar semua, syukur lancar : LULUS
- ❖ Bila terpaksa belum lancar, tetapi benar semuanya, bisa di-LULUS-kan juga. Insya Allah setelah tadarus beberapa juz akan lancar sendiri.
- ❖ Khusus bacaan Ikhfa'. bila sekiranya belum menguasai betul boleh di-LULUS-kan pula. Insya Allah akan bisa dikuasai sambil dibimbing dalam bertadarus.
- ❖ Pelajaran Ilmu Tajwid diberikan setelah bacaan santri *LANCAR* dan *BENAR* semuanya.







### 10 SIFAT BUKU IQRO'

1. **Racaan Langsung**
2. **CBSA (Cara Belajar Santri Aktif)**
3. **PRIVAT / KLASIKAL**
4. **MODUL**
5. **ASISTENSI**
6. **PRAKTIS**
7. **SISTEMATIS**
8. **VARIATIF**
9. **KOMUNIKATIF**
10. **FLEKSIBEL**

ISBN 978-979-25-6412-9



9 789792 564129 >